



**THE  
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN**

-----  
*Thursday, the 11<sup>th</sup> June, 2026*  
-----

**TABLE OF CONTENTS**

1. RECITATION FROM THE HOLY QUR`AN.....	1
2. RECITATION OF HADITH .....	1
3. RECITATION OF NAAT.....	2
4. NATIONAL ANTHEM .....	2
5. POINTING OUT THE LACK OF QUORUM.....	2
6. STARRED QUESTIONS AND ANSWERS .....	3
7. UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS .....	38
8. LEAVE OF ABSENCE .....	43
9. THE PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION (CONVERSION) (REPEAL) ACT, 2026 – (PASSED) .....	43
10. POINT OF ORDER.....	46
11. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED) .....	49
12. REPORT ON THE LIFE INSURANCE (NATIONALIZATION) (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PRESENTED).....	50
13. CALLING ATTENTION NOTICE <i>REG:</i> IRSA’S ARBITRARY ACTIONS CAUSING AN ACUTE SHORTAGE OF WATER IN SINDH AND BALOCHISTAN – (ANSWERED) .....	51
14. THE PAKISTAN TELECOMMUNICATION (RE-ORGANIZATION) (AMENDMENT) BILL, 2025 – (PASSED) .....	58
15. CALLING ATTENTION NOTICE <i>REG:</i> TERMINATION AND THE UNDUE DELAYS, SLOW PACE OF EXECUTIVES, AND INEFFICIENCIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE LOHI BHAIR SAFARI PARK PROJECT, 10TH AVENUE PROJECT AND OTHER DEVELOPMENT PROJECTS IN ISLAMABAD BY THE CAPITAL DEVELOPMENT AUTHORITY (CDA) – (CONTINUED) .....	64
16. POINTING OUT THE LACK OF QUORUM.....	66
17. CALLING ATTENTION NOTICE <i>REG:</i> TERMINATION AND THE UNDUE DELAYS, SLOW PACE OF EXECUTIVES, AND INEFFICIENCIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE LOHI BHAIR SAFARI PARK PROJECT, 10TH AVENUE PROJECT, AND OTHER DEVELOPMENT PROJECTS IN ISLAMABAD BY THE CAPITAL DEVELOPMENT AUTHORITY (CDA) – (ANSWERED) .....	67
18. POINTS OF ORDER.....	68
19. MOTION <i>REG:</i> SUSPENSION OF MR. MUHAMMAD IQBAL KHAN, MNA FOR THE REMAINDER OF THE SESSION – (ADOPTED) .....	69
20. POINTS OF ORDER.....	70

## NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN ASSEMBLY DEBATES

Thursday, the 11<sup>th</sup> June, 2026

The National Assembly of Pakistan met in the National Assembly Hall (Parliament House) Islamabad, at 11:07 a.m. with the honourable Speaker (Sardar Ayaz Sadiq) in the Chair.

### RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَّاءِ قَاعِبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا يُعْمَرُ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ  
صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

(سورة العنكبوت، آيات: 56 تا 59)

[ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔

اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ ہر تنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف  
لوٹ کر آؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی  
ہیں۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ (نیک) عمل کرنے والوں کا (یہ) خوب بدلہ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔]

### RECITATION OF HADITH

٢٨٥٩  
١٥  
وَعَنْ أَبِي ذَرِّقَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَةَ  
الْحَسَنَةَ تَمَّعْهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حُسْنٍ -  
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّارِخِيُّ)

[ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے لیے رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جہاں تم ہو اللہ سے ڈرا اور برائی کے بعد

نیکی کر، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ معاملہ کرو۔]

### RECITATION OF NAAT

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں  
 تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں  
 جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں  
 در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں  
 کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا  
 تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں

### NATIONAL ANTHEM

#### POINTING OUT THE LACK OF QUORUM

جناب سپیکر: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - Question Hour - جی مائیک کھولیں۔  
 رانا عاطف: سپیکر صاحب! کورم پورا نہیں ہے۔

جناب سپیکر: ہمارے سب آفیسرز موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے Ipads لے کے آئے ہوں گے اور جو نہیں لے کے آئے  
 ان کو کاغذ نہیں ملے گا۔ ہم paperless ہو گئے ہیں۔ - count be made.  
 (The count was made.)

جناب سپیکر: کورم پورا نہیں ہے جب تک quorum complete نہیں ہوتا ہم اجلاس کی کارروائی suspend کر  
 رہے ہیں۔ بجٹ میں past practice ہے کہ جو پارٹی بجٹ کی تقریروں کے دوران quorum point out کرے گی ان کا ٹائم کٹ جائے  
 گا۔ شکریہ۔

*(The Proceedings of the House were suspended till the completion of Quorum.)*

(اجلاس کی کارروائی 11:40 پر زیر صدارت جناب سپیکر دوبارہ شروع ہوئی)

**Mr. Speaker:** Count be made.

(The count was made.)

**Mr. Speaker:** The House is in order.

**STARRED QUESTIONS AND ANSWERS**

**Mr. Speaker:** Awais Ahmed Jakhar Sahib, not present, Ali Muhammad Sahib.

**Mr. Ali Muhammad:** Sir! Question No. 14.

**AMOUNT DISBURSED DURING THE LAST THREE FINANCIAL YEARS**

**14. \*Mr. Ali Muhammad:**

**Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state:**

- a) the amount disbursed to various sections of the media separately for print, electronic and social media during the last three financial years and the current financial year;**
- b) the detailed break-up of the amounts released to each media house, channel, publication, platform, or influencer, including names and purposes of such disbursement;**
- c) whether any audit has been conducted regarding media-related disbursement; if so, the findings of such audits;**
- d) what rational was adopted for the allocation and distribution of media funds;**
- e) what corrective or regulatory steps have been taken to ensure transparency, fairness and accountability in media funding; and**
- f) the number of details of appointments made in each subsidiary or department under the Ministry during the current tenure of the Government, including qualifications, designations and modes of appointment?**

**Minister for Information and Broadcasting (Mr. Attaullah Tarar):** (a) & (b)

As per Rules of Business 1973 (Annex-I), and the Guidelines and Procedures 2024 approved by Oversight and Implementation Committee (OIC) of MOIB (Annex-II), Ministry of I&B and Press Information Department has a constitutional and democratic obligation to keep citizens informed about the government's performance, policies, programs, services, initiatives, decisions, and operational activities. To fulfill this obligation, public sector communication and outreach interventions are disseminated through Print, Electronic, and Digital mediums, with

due consideration of their reach, audience, relevance, and ability to effectively communicate the State's message to the targeted segments of the society.

Allocations are not arbitrary; every disbursement is linked to a specific communication purpose, such as public awareness drive, policy communication, foreign affairs developments, economic and developments initiatives, crisis communication, and issues of national interest. Classified ads (procurement notices, tenders, recruitments) are mandated by law for promoting transparency in PSDP and institutional operational announcements. It is further submitted that for the purposes of such advertisements payments, funds are directly allocated by Finance Division, Government of Pakistan to each Ministries / Divisions / Departments / Organizations / Autonomous and Semi-autonomous bodies / Corporations / Nationalized Banks etc. through Annual Budget grants or grants for the purpose of any specific advertisement campaign as the case may be.

The amount disbursed by the Federal Government / Ministries / Divisions / Autonomous / Semi- Autonomous Bodies / Statutory Bodies / Corporations / Authorities etc. during the last three and current financial year against classified, display and digital content of public is as under:-

S.No.	F/Year	Sponsor	Mode/Medium	Amount in PKR
1.	2022-2023	M/o I & B	Print Media	492,761,125/-
2.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	1,123,766,746/-
3.	2023-2024	M/o I&B	-do-	196,636,950/-
4.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	939,634,894/-
5.	2024-2025	M/o I&B	-do-	428,283,084/-
6.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	671,204,544/-

7.	2025-26 (01-07-2025 to 31.12.2025)	M/o I&B	-do-	364,609,757/-
	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	298,573,784/-
8.	2022-2023	M/o I&B	Electronic Media	1,474,978,960/-
9.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	373,948,771/-
10.	2023-2024	M/o I&B	-do-	1,467,697,250/-
11.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	459,605,741/-
12.	2024-2025	M/o I&B	-do-	1,648,827,638/-
13.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	241,622,583/-
14.	2025-2026	M/o I & B	-do-	1,289,951,000/-
15.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	235,782,235/-
16.	2022-2023	M/o I&B	Digital Media	840,021,833/-
17.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	24,743,753/-
18.	2023-2024	M/o I&B	-do-	451,934,160/-
19.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	64,854,066/-
20.	2024-2025	M/o I&B	-do-	1,000,901,033/-

21.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	264,404,835/-
22.	2025-26 (01-07-2025 to 31.12.2025)	M/o I&B	-do-	324,271,338/-
23.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	146,946,652/-

**(c) Total Medium-Wise break up of amount FY 2022-2023 to 31.12.2025**

S.No	Mode/ Medium	Amount in PKR.
1.	Print Media	4,515,470,884/-
2.	Electronic Media	7,192,414,178/-
3.	Digital Media	3,118,077,670/-

The requisite Audit Report for the Financial Year **2022-2023** contains only one audit para titled “**ParaNo.18.5.1 Use of Supplementary Grant within the Press Information Department (PID), Islamabad - Rs. 1,790.045 million**” which has been recommended by **Public Accounts Committee** to be discussed again and decided at **Departmental Accounts Committee** level and referred the Para back to the DAC for discussion and verification of record. **(Annex-III)**.

Final Audit Report for the FY 2023-24 has not been received from Directorate of Federal Audit. Audit is yet to be conducted for FY 2024-25 by AGP.

- (d) 1.** The allocation of advertisement funds is governed by prudent fiscal governance, institutionalized and annual audit scrutiny, Parliamentary oversight, and citizens’ Right to Information. Advertisements are released through Print, Electronic, and Digital media to communicate Government policies, programs, and initiatives to targeted audience / citizens to reap the benefits of interventions. Media rates differ across platforms, with print and electronic having fixed but often higher costs but important for credibility and mass coverage, while digital offers cost-effective, targeted,

and measurable outreach. Classified print ads have increased due to expanding PSPP and economic activities such as procurement, tenders, and hiring, and due to the growing operations of Federal Public Universities and more than 400 Federal Government Organizations. Allocations are balanced across print media (classified and display) to promote credibility, electronic for mass out reach, and Digital for efficiency and maximum engagement ensuring transparent and effective use of public funds aligned with institutional needs and evolving media consumption.

2. Moreover, the Government released advertisement as part of Corporate Social Responsibility to disseminate social, environmental and ethical information related to Polio, Population control, Pollution and other such social subjects as well as to highlight economic reforms and initiatives undertaken by the Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Organizations / Autonomous and Semi- autonomous bodies / Corporations / Nationalized Banks etc. during the requisite period.
3. As per rating of TV Channels and circulation of Newspapers, the TV spots as well as Print insertions are allocated accordingly. The Advertisement rates are fixed as per viewership by the **Rate Fixation Committee** (RFC) as approved by the Federal Cabinet in 2022. Moreover, these matters are discussed in detail with PBA and APNS respectively.
4. Furthermore, the pending liabilities for Print, Electronic and Digital Media are cleared on a regular basis so that salaries of employees and outstanding advertisement dues are cleared by respective media houses.
5. Media industry is currently facing crisis particularly sustaining print media industry. More financial support is required by media houses to pay salaries to media workers. Therefore, regional media is being supported across different mediums & platforms through advertisement campaigns with targeted approach to reach out to people at grassroots level.

(e) All Federal Public Sector Advertisements are released through PID (Headquarters) and its Regional Information Offices (RIOs) in line with the Federal Government Advertisement Policy 2021 (as amended in 2022) approved by the Federal Cabinet and the Guidelines and Procedures 2024 approved by the Oversight and Implementation Committee of MOIB. To ensure transparency, fairness, and accountability in media funding, a three-stage system of pre-campaign planning, monitoring during execution, and post campaign evaluation has been institutionalized, supported by independent third-party data from IPSOS and the Institute of Regional Studies (ERS) for evidence-based allocations, with A/B testing applied for data-driven content packaging and customized dissemination. This framework allows timely course corrections, ensures cost-effective outreach, and maintains strict adherence to Budgetary ceilings, while enabling PID to function in an agile and responsive manner, adapting to evolving media trends without compromising fiscal prudence, regulatory oversight and fiscal discipline.

In addition, the Ministry of Finance allocates funds for Federal Public Sector advertisements directly to sponsoring Ministries, Divisions, attached departments, authorities, autonomous and semi-autonomous bodies, and statutory organizations, either through annual Budget allocations or special grants. Payments are then made directly by these sponsoring organizations to the respective publications, TV channels, and digital media platforms, and are subject to in-house pre-and post-audit as well as annual audit by the Auditor General of Pakistan.

(f) **P.I.D**

It is submitted that no regular recruitment has been carried out during the tenure of this Government. However, thirty-two (32) individuals were appointed purely on temporary basis under the Counter Violent Extremism (CVE) Project. These appointments were purely on contractual basis and confer no right of regularization or continuation beyond the project period. The details of thirty-two (32) individuals appointed under this project are enclosed herewith at **Annex-IV**.

- **PBC:**

Only five persons 2x Sales Assistant, 1x LDC, 2x Naib Qasid have been appointed in PBC during the tenure of incumbent government on Prime Minister's Assistance Package.

- **APPC:**

During the current tenure of the Government, no regular appointments have been made in the Associated Press of Pakistan Corporation (APPC) without due process. However, 15 contractual appointments were made against sanctioned posts within approved Budgetary provisions. Following are the details:

Total number of Contractual Appointments: 15

- **6xSub-Editors/Reporters/Anchorpersons of Social Media (Grade-III)**

Qualifications:

1 x M.Phil. in History 1 x BS in Mass Communication

1 x Master in Education, Bachelor in Mass Communication

1 x Masters in English

1 x Bachelor of Science in Media Communication & Studies (Major Journalism)

1 x Master in Political Science.

- **4xSpecial Assistant (Grade-II)**

Qualification:

1 x BBA in Finance

1 x MBA in Finance

1 x BSc in Commerce

1 x MBA in Finance

- **2x Editorial Assistant (Grade-IV)**

Qualification:

1 x Bachelor of Arts

1 x Associate Degree in Arts (2x Years)

- **1x Assistant Cameraman (Grade-IV)**

Qualification:

1 x BS in International Relations

- **Ix Computer Apprentice (Grade-VI) Qualification:**  
1 x Matric Tech
- **Ix Junior Clerk (Grade-VI) Qualification:**  
1 x A Level and O Level (General Science) Equivalence Certificate from Inter Board Committee of Chairman, Government of Pakistan.
- To ensure transparency, fairness, and accountability in appointments going forward, APPC has reinforced strict compliance with prescribed recruitment rules, merit-based selection criteria, and statutory procedures for all future appointments. Regular appointments, where required, shall be made only through open advertisement, competitive process, and due approval of the competent forums in accordance with applicable laws and regulations. Contractual appointments shall remain limited to exceptional operational necessities, strictly against sanctioned posts, within approved Budgetary allocations, and under delegated authority. These measures are aimed at promoting good governance, operational continuity, and equitable employment practices in line with public sector standards.
- **PCP:**  
Only four persons Ix APS, Ix Driver & 2x Naib Qasid have been appointed during the tenure of incumbent government. All the appointments have been made according to the Press Council of Pakistan Ordinance, 2002.
- **CBFC:**

Four posts i.e. U.D.C, L.D.C, Dispatch Rider and Naib Qasid were filled during the tenure the incumbent Government after advertisement.

**Mr. Speaker:** Answer be taken as read, supplementary.

جناب علی محمد: بہت شکر یہ honourable سپیکر صاحب، کافی عرصے سے یہ question pending تھا اور مہربانی ہے کہ اس کا جواب آگیا ہے۔ تو اس میں بس یہی ایک سوال ہے کہ جو انہوں نے تفصیلی جواب دیا ہے، ذرا House کو briefly بتا دیں honourable Minister صاحب کہ کتنے funds disburse ہوئے ہیں اور کس کس مد میں اور کس channel کو کتنا اس میں amount disburse ہوا ہے، اور ان کے دور میں کتنا pending تھا۔ تو اس پر زیادہ detail میں تو نہیں جانے کی ضرورت ہے لیکن summarize کر دیں تاکہ پورے House اور قوم کو بھی پتہ لگ جائے کہ کتنے channels کو کس مد میں کتنی amount جو ہے وہ Government disburse کر رہی ہے، بہت شکر یہ جی۔

جناب سپیکر: جی، Minister for Information عطاء صاحب۔

وزیر برائے اطلاعات و نشریات، قومی ورثہ و ثقافت (جناب عطاء اللہ تارڑ): جی، سر، یہ جو Electronic Media کی payments کا سوال ہے، میں شکر گزار ہوں علی محمد خان صاحب کا بھی اور اولیس حیدر جھکڑ صاحب کا بھی کہ جنہوں نے یہ سوال take up کیا۔ سر! یہ جو میڈیا کے channels کے rates ہوتے ہیں، Federal Government ہر channel کا اس کی rating کے مطابق طے کرتی ہے کہ per minute، for example 2 لاکھ کسی channel کا rate ہے جو top کا channel ہے، mid tear channel ہے اس کا ڈیڑھ لاکھ per minute ہوگا، جو بھی advertisement Government کی طرف سے جائے گی۔

سرفواد چوہدری صاحب کے دور میں جن channels کے rates 3 لاکھ تھے ان کو آدھا کر دیا گیا اور وہ ڈیڑھ لاکھ اور ایک لاکھ پچھتر ہزار پہ آگئے۔ تب میڈیا کی policy یہ تھی کہ Electronic Media کا خرچہ کم کرنا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج جو payments کے issues نظر آتے ہیں، Electronic Media is a dying medium. Sir! یہ ختم ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز channel بند ہو رہے ہیں، بندے نکال دیے، ایڈمن ختم کر دی۔ یہ channels خوشی سے نہیں کر رہے، میں آج Pakistan Broadcasters Association کے behalf پہ بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ Electronic Media channels مشکلات کا شکار ہیں۔ مگر Electronic Media channels یہ واحد forum ہے جس کے اوپر Code of Conduct ہے، Editorial Board ہے، ایک responsible journalism کا وہ ثبوت دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے اسے as a Government کی پولیو کی campaign ہو، climate change کی campaign ہو، digital wallet کی campaign ہو، جتنے بھی public کے issues ہیں اس پہ سر advertisement دینا یہ Government کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

میں نے اس پہ تمام Government کی Ministries, Divisions, Autonomous bodies تمام institutions کی جتنی detail تھی، وہ ہم نے دے دی ہے اور کس کس مد میں یہ advertisements گئی ہیں۔ دوسرا جب ہم میڈیا payments کی بات کرتے ہیں تو پاکستان براڈکاسٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ہم deal کرتے ہیں، یہ ایک ایسوسی ایشن ہے تمام Electronic Media channels کی، ان کی آپس میں ہم آہنگی ہے۔ اور top کے جو channels ہیں، mid tear channels ہیں، third tear کے جو channels ہیں ان کو ratings کے مطابق یہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ lump sum figure پوچھیں تو 2024 اور 2026 یہ دو ڈھائی سالوں میں تمام Ministries, Divisions, Government کے تمام اداروں کی payments اور campaigns ملا کے 8 billions کی رقم بنتی ہے جو کہ channels کہتے ہیں کہ یہ کم ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ جی آپ رقم بڑھائیں کیونکہ Electronic Media کی space shrink ہوئی، Electronic Media ختم ہوا تو پھر آپ ایک ایسی territory میں چلے جائیں گے جہاں پہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، جہاں پہ کسی قسم کی کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ اور یہ سارے channels ٹیکس بھی دیتے ہیں، یہ PEMRA کو بھی comply کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے regulations ہیں، FBR کو بھی جواب دہ ہیں، PEMRA کو بھی جواب دہ ہیں، regulatory bodies کو بھی جواب دہ ہیں، Ministry of Information کو بھی جواب دہ ہیں and Sir! I tell you for a fact کہ talk shows، news cycle، Opposition کو بھی اتنی ہی space ملتی ہے جتنی Government کو ملتی ہے۔

تو میری درخواست یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے Electronic Media کو بچانے، اس کی growth کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہئیں۔ باقی میں نے تمام details, lump sum figure بھی بتا دیے ہیں اور ہر سال کی جو income جاتی ہے channels کو وہ بھی بتا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو employees کا issue ہے، اس دن بھی walk out ہوا، میں Suno news کا شکر گزار ہوں انہوں نے کچھ لوگوں کو واپس رکھا، میں AAJ news کا شکر گزار ہوں انہوں نے اس دن کے walk out کے بعد کچھ pending dues وہ pay کیے۔ مگر کئی channels کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ وہ چار چار مہینے کی بھی تنخواہ دے سکیں، تو ہمیں Electronic Media جس نے ایک responsible journalism میں فروغ دیا ہے اس کو support کرنا ہے، بہت شکریہ۔

جناب سپیکر: نکلت نکلتیل صاحبہ سپلیمنٹری۔ Sorry آپ تو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں۔ شازیہ مری صاحبہ۔

شازیہ مری: بہت شکریہ سپیکر صاحب، میں نے جواب سنا ہے honourable Minister کا اور آخر میں انہوں نے ذکر کیا جو workers اور Electronic Media کے حوالے سے آپ نے جن concerns کا اظہار کیا ان سے میں انکار نہیں کروں گی۔ لیکن سر جو concerns employees کی ہیں اس کا کیا کریں، اس کی جواب دہی کون کرے گا، دیکھیں یہ ایک پوری shift ہے۔ Who is running the electronic media today اب journalism کم ہے کاروبار زیادہ ہے اور جب کاروبار ہوتا ہے تو عام عوام کے مسائل اور concerns کہیں نہیں نظر آتے اور یہی employees کے ساتھ ہو رہا ہے۔

آپ بات کر رہے ہیں تنخواہوں کی یا نکالنے کی، اگر آپ صرف یہ جائزہ لے لیں کہ ایک Reporter جو اس گیلری میں بیٹھا ہے and with all due respect to the Anchor جو حضرات جو وہاں بیٹھ کے روز 7 سے 8، 8 سے 10 اور دیگر slots میں programme کرتے ہیں very good, they are doing it and they are contributing towards Journalism ان کے packages میں اور عام Reporters کے، Cameramen کے، Photographers کے، ان

the salaries are being concentrated and they are concentrated تو یکھیں packages کے  
are not being distributed equally.

تو میں Minister صاحب سے یہ سوال کروں گی کہ کیا آپ نے اس طرف بھی نظر دوڑائی ہے کہ جو آپ انہیں Ads دے رہے ہیں ان کا جو استعمال ہے وہ employees کی welfare, social protection کے لیے وہ ہو رہا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ہمارا مطالبہ ہے اس House سے۔

جناب سپیکر: جی عطاء صاحب۔

جناب عطاء اللہ تارڑ: شاز یہ مری صاحبہ ہمیشہ بڑے public importance کے issues raise کرتی ہیں and I'm grateful and genuinely Media workers کی یہ آواز اٹھاتی ہیں۔ جس سے ہمیں بھی مدد ملتی ہے کہ ہم اس کا کوئی حل تلاش کر سکیں۔ I would also like to express my gratitude to the Sindh Government and the Electronic Media Punjab Government. Sir! Media payments کے اوپر ہمیں بڑی support رہتی ہے Electronic Media channels کو Sindh Government کی طرف سے بھی، Punjab Government کی طرف سے بھی۔

میں یہ چاہوں گا کہ آج اس سوال کے جواب میں ہم ایک policy ضرور introduce کروائیں اور میں PBA سے یہ take up کروں گا کہ ابھی، اگر کوئی Driver, Cameraman, Reporter اور Technician اس کی دوران سروس اگر death ہو جاتی ہے، there is no policy, there is no system کہ جس کے through اس کو compensate کیا جائے۔ تو یہ jointly اگر مجھے PTI والے بھی اجازت دیں، میں آپ کی طرف سے بھی اس demand کو channels کو put up کروں اور یہ پورے House کی طرف سے ہو کہ کوئی Media worker جس کی death ہوتی ہے دوران سروس channel bound ہو کہ اس کو financial package دے، اس کے بچوں کی کفالت کرے، تو میں پورے House کی طرف سے شکر یہ ادا کرتا ہوں علی محمد خان صاحب کا بھی، آپ کا بھی، کم از کم یہ ایک چیز ہم achieve کر لیں اور یہ House کی طرف سے میں PBA کو convey کروں گا۔ باقی ان کی بات ٹھیک ہے، disparity ضرور ہے، کیونکہ Anchor، دیکھیے یہ ایک business model ہے، جو Anchor ہے وہ business لے لے کے آتا ہے، وہ TRP لے لے کے آتا ہے جس کی بنیاد پہ channels کو ads ملتے ہیں تو اس کی تنخواہ obviously اس سے linked ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ media worker, reporter جو باقی staff ہے ان کی تنخواہ کم کر دی جائے، تو اس کے لیے میں PBA سے خصوصی meeting کروں گا اور ان کو بھی دعوت دوں گا دونوں sides of the House۔

اور مجھے ایک افسوس بھی ہے کہ علی ظفر صاحب Information کی Standing Committee, Senate، بڑی اچھی چلا رہے تھے اور ہمیں مدد کرتے تھے چیزوں کے اندر، وہ جب سے committees کا boycott ہوا ہے تو ہم ان کی رہنمائی سے محروم ہو گئے ہیں۔

تو مل جل کے میں چاہتا ہوں کہ یہ media کے front پہ ہم division ختم کریں اور as a House ہم اس کو لے کے چلیں we will fully comply ان شاء اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ سر۔

جناب سپیکر: جی، thank you، ڈاکٹر شازیہ ثوبیہ صاحبہ، -next question-

**Dr. Shazia Sobia Aslam Soomro:** Sir! Question No. 39.

### **STEPS TAKEN TO ENSURE TRANSPARENCY IN ADVERTISEMENTS**

**39. \* Dr. Shazia Sobia Aslam Soomro:**

**Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state:**

- a) the total Budget allocated to the Ministry during the last three Financial Years, alongwith year-wise details of expenditure;**
- b) the details of Government advertising released through print, electronic, and digital media during the said period; and**
- c) the steps taken by the Ministry to ensure transparency and merit in the distribution of Government advertisements and to prevent misuse for political or non-official purposes?**

**Minister for Information and Broadcasting (Mr. Attaullah Tarar): (a), (b) & (c)** 1. All public sector advertisements are released in accordance with the Federal Government Advertisement Policy 2021 (as amended in 2022), approved by the Federal Cabinet, and the Guidelines and Procedures 2024 issued thereunder **(Annex-A)**. The policy is all-encompassing, covering all media, and is designed to ensure transparent, judicious, and merit-based utilization of public resources for government communication and media campaigns.

2. Government advertising is released to serve a defined public interest purpose. Advertisements are released to inform citizens about government policies, programmes, and initiatives; to change behavior in areas of public

health and safety; to ensure operational effectiveness of government by making citizens aware of available public services; and to project Pakistan's national narrative and interests. Campaigns and outreach activities are planned and executed on the basis of reach, audience, and measurable public benefit/dividend, not based on any media outlet's editorial stance, political affiliation, or loyalty. The policy expressly requires that advertising decisions be driven by value for public money and effective delivery of the public message.

3. During the requisite period, advertisements were released across print electronic, and digital media for the following sectors of public importance: economic reforms; foreign affairs; governance reforms; performance and initiatives of Federal Government Ministries/ Divisions/ Departments/ Autonomous and Semi-autonomous Bodies/ Entities etc.; socio-economic issues; youth empowerment; Kashmir; National Action Plan; public safety and awareness; environment and climate change; tourism; defence and security; digital safety and cyber security; Marka-e-Haq, Youm-e-Tashakur, and the Pakistan-India Standoff.
4. A significant portion of government advertising constitutes a civic and social obligation, in line with Corporate Social Responsibility, to disseminate information on matters of direct public welfare, including polio eradication, population control, pollution, public safety, and other subjects of social importance. These are not promotional campaigns; these are public service communications that directly contribute to the health, safety, and well-being of citizens.
5. Advertisement rates are determined by the Rate Fixation Committee (RFC) as approved by the Federal Cabinet in 2022, based on verified viewership and circulation data. Allocation of TV spots and print insertions is made in accordance with audience ratings and newspaper circulation figures, ensuring that public funds are directed towards outlets with the greatest reach and impact. These matters are regularly deliberated in consultation with the Pakistan Broadcasters Association (PBA) and the All-Pakistan

Newspapers Society (APNS), respectively, to ensure fairness and transparency.

6. Furthermore, the pending liabilities for Print, Electronic and Digital Media are cleared on a regular basis so that salaries of employees and outstanding advertisement dues are cleared by respective media houses.
7. Media industry is currently facing crisis particularly sustaining print media industry. More financial support is required by media houses to pay salaries to media workers. Therefore, regional media is being supported across different mediums & platforms through advertisement campaigns with targeted approach to reach out to people at grassroots level.
8. The requisite details of total Budget allocated to PID H/Qs, Islamabad during the last three Financial Years along- with the details of expenditure are as under: -

**STATEMENT SHOWING DETAILS OF TOTAL BUDGET ALONGWITH EXPENDITURE  
FOR LAST THREE YEARS FOR PID**

S. No.	F.Y	Allocated Budget	Supplementary Grant	Re appropriate (-)	Re appropriate (+)	Final Budget grant	Expenditure
1.	22-23	728,455,000/-	2,950,000,000/-	128,107,619/-	146,373,422/-	3,696,720,803/-	3,790,113,170/-
2.	23-24	1,077,000,000/-	1,691,060,000/-	102,410,679/-	184,393,704/-	2,850,044,525/-	2,921,813,091/-
3.	24-25	1,077,000,000/-	3,920,822,000/-	94,081,459/-	319,669,732/-	5,223,410,273/-	5,247,216,268/-

The requisite details are tabulated as under:-

S. No.	F/Year	Sponsor	Mode/Medium	Amount in PKR
1.	2022-2023	M/o I & B	Print Media	840,380,340/-
2.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi- Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	1,846,668,145/-
3.	2023-2024	M/o I & B	-do-	289,961,738/-

4.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations/ Authorities and statutory bodies etc.	-do-	1,813,004,376/-
5.	2024-2025	M/o I&B	-do-	1,310,053,107/-
6.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	2,099,397,673/-
7.	2022-2023	M/o I & B	Electronic Media	2,012,906,533/-
8.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	512,043,308/-
9.	2023-2024	M/o I&B	-do-	2,422,922,514/-
10.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	525,845,585/-
11.	2024-2025	M/o I & B	-do-	5,250,443,241/-
12.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	870,670,026/-
13.	2022-2023	M/o I & B	Digital Media	840,021,833/-
14.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	24,743,753/-
15.	2023-2024	M/o I & B	-do-	451,934,160/-

16.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	64,854,066/-
17.	2024-2025	M/o I & B	-do-	1,000,901,033/-
18.	-do-	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	-do-	264,404,835/-

(Annexures have been placed in the National Assembly Library.)

**Mr. Speaker:** Answer be taken as read, supplementary.

ڈاکٹر شازیہ ثوبیہ اسلم سومرو: سر میرا supplementary question یہ ہے کہ question میں جو آپ نے جواب دیا ہے کہ Transparent and Merit-Based Utilization of Public Resources for Government Communication and Media Campaign. یہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں اور ابھی جو پہلے سوالات کے جوابات آپ نے دیئے ہیں، اس میں آپ نے کہا کہ پرائیویٹ چینل نقصان میں جاتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اشتہارات بھی دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر دوسرا بندہ غریب ہے۔ اگر پرائیویٹ چینل کو آپ گورنمنٹ کے resources سے support کریں گے تو پھر جو گورنمنٹ کے چینل ہیں، ان کے employees اسی حالت میں رہ جائیں گے اور وہ اپنی salaries کے لیے پریشان رہیں گے۔

جناب سپیکر: آپ کا سوال کیا ہے؟

ڈاکٹر شازیہ ثوبیہ اسلم سومرو: سر! میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے خود یہ کہا ہے، merit based utilization of public resources for government communication and media campaign جب Government کی media اور campaigns کے لیے آپ نے کام کرنا ہے اور ان کو پیسے دینے ہیں، تو کیا اس policy پہ implementation ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟

جناب سپیکر: وہ آگیا، repeat نہ کیجئے۔

جناب عطاء اللہ تارڑ: سر! میں Floor of the House یہ بات commit کرنا چاہتا ہوں کہ Pakistan Television کے ملازمین کی کوئی تنخواہ اس وقت pending نہیں ہے۔ ہم نے اخراجات کم کیے ہیں اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ FIFA World Cup، جو آج سے شروع ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کا football استعمال ہو گا اور ہمیں اس چیز پر بڑا فخر ہے۔ صرف PTV

Sports FIFA World Cup نشر کر رہا ہے، پاکستان میں اور کوئی نشر نہیں کر رہا۔ ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کا حق ہے کہ وہ sports کو دیکھیں۔ میرے پاس option تھی کہ میں خرچہ بچاتا، میں یہ نہ دکھاتا، لیکن میں نے باقی جگہ سے expenditure cut کیا ہے۔ اس وقت PTV کا کوئی issue نہیں ہے۔

Having said that، جو محترمہ نے سوال کیا ہے، electronic media channels کو جو میں support کی بات کرتا ہوں، ہم awareness campaigns صرف اس لیے نہیں چلاتے کہ ہم نے channels کو support کرنا ہے۔ اگر ہم نے polio campaigns چلائی ہیں، اگر ہم نے counter terrorism پر campaigns چلائی ہیں، اگر ہم نے climate change پر campaigns چلائی ہیں، وہ صرف وقت کی ضرورت بھی ہے۔

جیسے میں نے کہا کہ جو merit based system ہے، channels نے کبھی احتجاج نہیں کیا کہ فلاں کو زیادہ ملے اور فلاں کو کم ملے۔ Sir tiered system ہے tier 1، tier 2، tier 3 کی rating اس کے مطابق ملے ہے۔ مگر Federal Government اور صوبے اس میں اپنی مرضی ضرور کرتے ہیں کہ spots کس کو زیادہ دینے ہیں اور کس کو کم دینے ہیں۔ اس پہ ہم بہتری لائیں گے۔

میری ایک اور request ہے۔ میرے جو honourable دوست ہیں PTI کے، ان کی KP میں government ہے۔ KP Government کو بھی سراسر اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ electronic media کو support کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ابھی فی الحال وہاں سے electronic media کا بہت کم share جاتا ہے۔ اگر سہیل آفریدی صاحب کے لیے ممکن ہے تو اس پہ ضرور توجہ دیں۔ شکر یہ۔

جناب سپیکر: عالیہ کامران صاحبہ on supplementary

محترمہ عالیہ کامران: میرا question یہ ہے کہ PTV میں کتنے ملازمین MP-III میں بھرتی کیے ہیں؟ ان کی تعداد بتاد دیجیے اور جو یہ YouTubers ہوتے ہیں، Digital Media Persons ہوتے ہیں، اشتہارات یا campaigns جو ان کو دی جاتی ہیں، تو ان کی selection کا طریقہ کار کیا ہے؟

جناب سپیکر: جی عطاء صاحب۔

جناب عطاء اللہ تارڑ: جو Digital Media Advertising Policy ہے، وہ ابھی تک fully approved نہیں ہوئی۔ آپ Digital Influencers کی بات کر رہی ہیں، یہ ہم directly select نہیں کرتے۔ ہمارے panel کے اوپر PR Firms ہیں، Public Relations Firms، جن کو Advertising Agencies بھی کہتے ہیں۔ ان advertising agencies کو

ہم merit کے اوپر select کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ For example آج کل کے دور میں niches ہیں کہ آپ نے اگر health کی awareness کرنی ہے، اس کے اور influencers ہیں اور اگر آپ نے climate کی کرنی ہے تو اس کے اور influencers ہیں۔ Macro influencer الگ ہے اور micro influencer الگ ہے، Instagram کا الگ ہے، Tiktok کا الگ ہے اور Facebook کا الگ ہے۔ یہ PR firms identify کرتی ہیں اور ہمیں وہ list submit کرتی ہیں، جس کو ہم approve کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے digital influencers کی list نہیں جاتی، نہ ان کو payment جاتی ہے۔ ہم PR firms کے through یہ system operate کرتے ہیں۔

جناب سپیکر: Next Question، شہلا رضا صاحبہ۔

سیدہ شہلا رضا: سوال نمبر 55۔

#### **NAME-WISE LIST OF MEDIA HOUSES TO WHICH PAYMENTS WERE MADE**

55. \*Syeda Shehla Raza:

**Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state:**

- a) the total expenditure incurred on Government advertisements in print, electronic and digital media during Financial Year 2024-25;
- b) the name-wise list of media houses to which payments were made; and
- c) the criteria adopted for the distribution of advertisements?

**Minister for Information and Broadcasting (Mr. Attaullah Tarar):** (a), (b) & (c)

1. All public sector advertisements are released in accordance with the Federal Government Advertisement Policy 2021 (as amended in 2022), approved by the Federal Cabinet, and the Guidelines and Procedures 2024 issued there under (Annex-IV). The policy is all-encompassing, covering all media, and is designed to ensure transparent, judicious, and merit-based utilization of public resources for government communication and media campaigns.
2. Government advertising is released to serve a defined public interest purpose. Advertisements are released to inform citizens about government policies, programmes, and initiatives; to change behavior in areas of public health and safety; to ensure operational effectiveness of government by making citizens aware of available public services; and to project Pakistan's

national narrative and interests. Campaigns and outreach activities are planned and executed on the basis of reach, audience, and measurable public benefit/dividend, not based on any media outlet's editorial stance, political affiliation, or loyalty. The policy expressly requires that advertising decisions be driven by value for public money and effective delivery of the public message.

3. During the requisite period, advertisements were released across print, electronic, and digital media for the following sectors of public importance: economic reforms; foreign affairs; governance reforms; performance and initiatives of Federal Government Ministries/ Divisions/ Departments/ Autonomous and Semi-autonomous Bodies/ Entities etc.; socioeconomic issues; youth empowerment; Kashmir; National Action Plan; public safety and awareness; environment and climate change; tourism; defence and security; digital safety and cyber security; Marka-e-Haq, Youm-e-Tashakur, and the Pakistan-India Standoff.
4. A significant portion of government advertising constitutes a civic and social obligation, in line with Corporate Social Responsibility, to disseminate information on matters of direct public welfare, including polio eradication, population planning, pollution control, public safety, and other subjects of societal importance. These are not promotional campaigns; they are public service communications that directly contribute to the health, safety, and well-being of citizens.
5. Advertisement rates are determined by the Rate Fixation Committee (RFC) as approved by the Federal Cabinet in 2022, based on verified viewership and circulation data. Allocation of TV spots and print insertions is made in accordance with audience ratings and newspaper circulation figures, ensuring that public funds are directed towards outlets with the greatest reach and impact. These matters are regularly deliberated in consultation with the Pakistan Broadcasters Association (PBA) and the All-Pakistan Newspapers Society (APNS), respectively, to ensure fairness and transparency.

6. Furthermore, the pending liabilities for Print, Electronic and Digital Media are cleared on a regular basis so that salaries of employees and outstanding advertisement dues are cleared by respective media houses.
7. Media industry is currently facing crisis particularly sustaining print media industry. More financial support is required by media houses to pay salaries to media workers. Therefore, regional media is being supported across different mediums & platforms through advertisement campaigns with targeted approach to reach out to people at grassroots level.
8. The total expenditure incurred on Government advertisements in Print, Electronic and Digital Media during the Financial Year 2024-2025 is as under:

S.No	Sponsor	Mode / Medium	Amount in PKR.
1.	M/ol&B	Print Media	1,310,053,107/-
2.	-do-	Electronic	5,250,443,241/-
3.	-do-	Digital / Social Media	1,000,901,033/-
1.	Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Authorities and statutory bodies etc.	Print Media	2,099,397,673/-
2.	-do-	Electronic	870,670,026/-
3.	-do-	Digital / Social Media	264,404,835/-

Details are attached (**Annex-I, II & III**).

(Annexures have been placed in the National Assembly Library.)

**Mr. Speaker:** Answer be taken as read, supplementary question please.

سیدہ شہلا رضا: سر! بڑی خوشی کی بات ہے کہ Minister صاحب خود موجود ہیں اور reply کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی book ملی ہے۔ اس میں سے ایک amount ہے، جو میں نے اس کو پڑھا، serial number مجھے دیا ہوا ہے کہ کتنے print, electronic and digital media اور پھر Federal سے related print media وغیرہ کچھ آتے ہیں۔ یہ ایک بڑی amount ہے۔ میں Minister صاحب کی توجہ چاہوں گی کہ number six میں آپ نے لکھا ہے کہ:

Furthermore, pending liabilities for print, electronic and digital media are cleared on a regular basis. So, salaries of the employees and outstanding advertisements dues are cleared by the respective media houses.

توسوال پھر وہی ہے آپ کے انک جاتا ہے کہ آپ جن کو تناسب کچھ دے رہے ہیں، کیا ان Houses کے لیے آپ نے کوئی cell بنایا ہے کہ جن کو ہم اتنی amount دے رہے ہیں regular basis پہ، ان کے اگر journalist کی، camera journalist کی یا کوئی بھی قسم کی شکایت ہے تو وہ آپ کے ہاں register ہو سکے، جن کو آپ already دے رہے ہیں اور جن کے dues وغیرہ clear ہیں؟  
جناب سپیکر: عطاء صاحب۔

جناب عطاء اللہ تارڑ: آزیبل شہارضا صاحبہ، breakup ہم نے دے دیا جو ہم different mods میں payments کرتے ہیں۔ ہم payments وقتاً فوقتاً clear کرتے ہیں جن کو ہم liabilities کہتے ہیں۔ Federal Government کی بہت بڑی liability ہے جو ہم pay کرتے ہیں۔ کل بھی ECC کی meeting ہوگی، اس کو ہم clear کریں گے۔ Channels کا اب باقاعدہ SOP بن گیا ہے کہ عید کے قریب payment کر دتا کہ salaries دیں۔ کوئی اہم موقع آتا ہے تو وہ ہمیں بڑا push کرتے ہیں کہ یہ payments clear ہوتا کہ media employees کی ضروریات پوری کی جا سکیں اور تنخواہیں time پہ دی جا سکیں۔

اس کے لیے جو ہمارا Press Information Department ہے، اس کے اندر ایک cell موجود ہے جو timely payment کو execute کرتا ہے اور media channels کے ساتھ وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس وقت فلاں dues آپ کے pending ہیں، اتنے ماہ کی salary pending ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یہ ضروری ہے اور وہ اس کو ensure کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس financial year کے end سے پہلے، اگلے ایک ہفتے میں ہم ایک اور tranche release کریں تاکہ ان پہ pressure کم ہو اور یہ channels اپنی تنخواہیں بروقت ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔

جناب سپیکر: شاہدہ بیگم صاحبہ، on supplementary۔ یہ آخری ہے۔

محترمہ شاہدہ بیگم: Minister specific questions کا specific answer detail سے دے رہے ہیں اور امید

ہے کہ میرے supplementary questions کا بھی ان کے پاس یقیناً جواب ہوگا۔

جناب سپیکر! PTV کے حوالے سے ایک شکایت آرہی تھی کہ employees کے جو perks اور privileges ہیں اور جو Budget Session میں bonus ہوتا ہے، وہ جو Parliament کو cover کرتے ہیں، ان employees کو time پہ نہیں ملتا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی کوئی PTV کے حوالے سے ایسی شکایت نہیں ہے۔ ابھی Budget Session ہوگا، تو اس میں ہمارا ایک rule بھی ہوتا ہے کہ جو media centers loss میں جاتے ہیں تو ان کو bonus نہیں دیا جاتا اور یہی PTV plea کے حوالے سے

employees کے سامنے بھی پچھلے دو سال سے رکھی جا رہی ہے۔ جو officers ہیں، ان کو تو وہ bonus مل جاتا ہے، لیکن جو workers یہاں پہ media کے ہوتے ہیں، cameramen ہیں، Parliament کو cover کرتے ہیں، ان کو نہیں ملتا۔ تو کیا یہ surety دے سکیں گے کہ ان شاء اللہ ابھی اس Budget میں timely ان کو وہ bonus مل جائے گا؟ thank you۔

جناب سپیکر: عطاء اللہ صاحب۔

جناب عطاء اللہ تارڑ: بطور وزیر اطلاعات کے bonus کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ سرکار کا پیسہ ہے اور لوگوں کا پیسہ ہے اور جب تنخواہیں time پہ مل رہی ہیں تو bonus کس بات کا؟ کون سی ایسی کارکردگی دکھائی ہے کہ ہم bonus دیں؟ اگر officers کو ملا ہے تو workers کو بھی ضرور ملے گا۔ ہم officers کا بھی واپس نہیں لیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اگر Assembly کا جو media wing ہے، وہ بھی ان کی کارکردگی کے اوپر recommend کر دے کہ یہ bonus ان کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے۔ Honourable Speaker we go by your judgement.

Mr. Speaker: Question Hour is over.

### **EXPENDITURE INCURRED ON ADVERTISEMENTS**

†11. \* Mr. Awais Haider Jakhar:

**Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state the detail of expenditure incurred by the present Government on advertisements on various TV Channels and the reasons for such advertisements?**

**Minister for Information and Broadcasting (Mr. Attaullah Tarar):** 1. All public sector advertisements are released in accordance with the Federal Government Advertisement Policy 2021 (as amended in 2022), approved by the Federal Cabinet, and the Guidelines and Procedures 2024 issued there under (Annex-IY). The policy is all-encompassing, covering all media, and is designed to ensure transparent, judicious, and merit-based utilization of public resources for government communication and media campaigns.

†(Question Hour being over, the remaining Starred Questions were treated as Unstarred and placed on the Table of the House.)

2. Government advertising is released to serve a defined public interest purpose. Advertisements are released to inform citizens about government policies, programmes, and initiatives; to change behavior in areas of public health and safety; to ensure operational effectiveness of government by making citizens aware of available public services; and to project Pakistan's national narrative and interests. Campaigns and outreach activities are planned and executed on the basis of reach, audience, and measurable public benefit/dividend, not based on any media outlet's editorial stance, political affiliation, or loyalty. The policy expressly requires that advertising decisions be driven by value for public money and effective delivery of the public message.
3. During the requisite period, advertisements were released across print, electronic, and digital media for the following sectors of public importance: economic reforms; foreign affairs; governance reforms; performance and initiatives of Federal Government Ministries/ Divisions/ Departments/ Autonomous and Semiautonomous Bodies/ Entities etc.; socio-economic issues; youth empowerment; Kashmir; National Action Plan; public safety and awareness; environment and climate change; tourism; defence and security; digital safety and cyber security; Marka-e-Haq, Youm-e-Tashakur, and the Pakistan-India Standoff.
4. A significant portion of government advertising constitutes a civic and social obligation, in line with Corporate Social Responsibility, to disseminate information on matters of direct public welfare, including polio eradication, population planning, pollution control, public safety, and other subjects of societal importance. These are not promotional campaigns; they are public service communications that directly contribute to the health, safety, and well-being of citizens.
5. Advertisement rates are determined by the Rate Fixation Committee (RFC) as approved by the Federal Cabinet in 2022, based on verified viewership and circulation data. Allocation of TV spots and print insertions is made in accordance with audience ratings and newspaper circulation figures, ensuring that public funds are directed towards outlets with the greatest

reach and impact. These matters are regularly deliberated in consultation with the Pakistan Broadcasters Association (PBA) and the All-Pakistan Newspapers Society (APNS), respectively, to ensure fairness and transparency.

6. Furthermore, the pending liabilities for Print, Electronic and Digital Media are cleared on a regular basis so that salaries of employees and outstanding advertisement dues are cleared by respective media houses.
7. Federal Public Sector Advertisements are released / aired through TV Channels for public awareness and outreach interventions in key sectors including, economy, Foreign affairs, Kashmir Affairs, National Action Plan, commemoration of Days of National / International significance, Public Safety and Youth Affairs / empowerment.
8. Moreover, the Government released advertisement as part of Corporate Social Responsibility to disseminate social, environmental and ethical information related to Polio, Population control, Pollution and other such social subjects as well as to highlight economic reforms and initiatives undertaken by the Federal Government Ministries / Divisions / Departments / Organizations / Autonomous and Semi-Autonomous bodies / Corporations / Nationalized Banks etc. during the requisite period.
9. As per rating of TV Channels and circulation of Newspapers, the TV spots as well as Print insertions are allocated accordingly. The Advertisement rates are fixed as per viewership by the **Rate Fixation Committee** (RFC) as approved by the Federal Cabinet in 2022. Moreover, these matters are discussed in detail with PBA and APNS respectively.

The details of the requisite expenditure are as under:-

S. No.#	Period	Name of sponsoring Ministries / Deptt etc.	Amount in PKR.
1.	01.07.2024 to 31.03.2026	M/o I&B	8,027,405,417/-
2.	-do-	Other Ministries / Departments etc.	1,258,891,922/-

10. Furthermore, the pending liabilities for Print, Electronic and Digital Media are cleared on a regular basis so that salaries of employees and outstanding advertisement dues are cleared by respective media houses.
11. Media industry is currently facing crisis particularly sustaining print media industry. More financial support is required by media houses to pay salaries to media workers. Therefore, regional media is being supported across different mediums & platforms through advertisement campaigns with targeted approach to reach out to people at grassroots level.

(Annexures have been placed in the National Assembly Library.)

#### **DEVELOPMENT WORK IN SAIDU SHARIF AIRPORT, SWAT**

**115. \* Mr. Sohail Sultan:**

**Will the Minister for Defence be pleased to state:**

- a) whether flight operation in Saidu Sharif Airport has been stopped over long time;**
- b) when the Government is going to start flight operations in Saidu Sharif Airport;**
- c) being a touristic area, many visitors would like to come to Swat in summer by using flight service;**
- d) why the Government is not interested in generating revenue for itself through flight operations; and**
- e) whether there is developmental work in progress in Saidu Sharif Airport, if yes, the details of the cost of the aforesaid Airport?**

**Minister for Defence (Khawaja Muhammad Asif):** (a) There have been no scheduled flight operations at Saidu Sharif Airport since 2021. It is, highlighted that subject to Availability of adequate infrastructure, commencing or suspending flight operation on a particular route or an airport is an airline's commercial decision based on various factors including passenger demand, load-factors based on its aircraft 'fleet, compatibility of its aircraft with available airport infrastructure,

geographical location, operational costs and regulatory compliances. Therefore, it is the airlines prerogative to compete on desirable routes while remaining within the policy framework as outlined in the National Aviation Policy (NAP).

**(b)** As submitted above, flight operations on a particular route is the commercial decision of the airline based inter alia on passenger demand and load factors. Recently, the matter of restoration of commercial flights at Saidu Sharif Airport was taken up with domestic airlines for their inputs and comments. Private airlines have expressed their inability to commence operation at Saidu Sharif Airport for the reasons of commercial ion viability, incompatibility of available fleet with airport infrastructure and proximity with Islamabad Airport complemented by good road infrastructure. PIA has informed that flight operation to Saidu Sharif Airport was suspended due to continuous losses. PIA has also highlighted that Saidu Sharif Airport is in proximity of Islamabad and Peshawar Airports, approachable in about 3 hours, and market potential for domestic and international operation at Saidu Sharif Airport does not allow commercial flight operation. As and when RPTs/airlines decide to operate flights to / from the Saidu Sharif Airport, Government will also generate revenue in terms of Tax and other receivables.

**(c) & (d)** PCAA under the guidance of the Federal Government and Ministry of Defence is always striving to provide a fostering environment for proMotion of aviation activities in the country and improvement nation-wide air connectivity. Currently, there is no bar from PCAA's end on operations to/ from Saidu Sharif Airport. Any request for operations from said airport would be encouraged and would be permitted subject to availability of the airport infrastructure.

**(e)** The Airport has been handed over to PAF by PAA. No development work is ongoing by PAA at Saidu Airport.

**AUSTERITY MEASURES TAKEN WHILE RELEASING ADVERTISEMENTS**

**123. \* Syed Rafiullah:**

**Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state:**

- a) whether any advertisements were released in connection with the Ramadan package, 2026 through electronic and print media;**
- b) if so, the details thereof, including the names of media outlets, duration of advertisements and total expenditure incurred on such advertisements;**
- c) the criteria and policy followed for the allocation and disbursement of advertisement funds among various media organizations;**
- d) whether the Government's austerity measures were taken into consideration while releasing such advertisements;**
- e) if not, the reasons thereof;**
- f) whether the Government intends to ensure strict adherence to its advertisement policy and austerity measures in future; and**
- g) if so, the steps being taken by the Government in this regard?**

**Minister for Information and Broadcasting (Mr. Attaullah Tarar):** (a), (b) & (c)

1. All public sector advertisements are released in accordance with the Federal Government Advertisement Policy 2021 (as amended in 2022), approved by the Federal Cabinet, and the Guidelines and Procedures 2024 issued thereunder (Annex-A). The policy is all-encompassing, covering all media, and is designed to ensure transparent, judicious, and merit-based utilisation of public resources for government communication and media campaigns.
2. Government advertising is released to serve a defined public interest purpose. Advertisements are released to inform citizens about government policies, programmes, and initiatives; to change behaviour in areas of public health and safety; to ensure operational effectiveness of government by making citizens aware of available public services; and to project Pakistan's national narrative and interests. Campaigns and outreach activities are planned and executed on the basis of reach, audience, and measurable

public benefit/dividend, not based on any media outlet's editorial stance, political affiliation, or loyalty. The policy expressly requires that advertising decisions be driven by value for public money and effective delivery of the public message.

3. During the requisite period, advertisements were released across print, electronic, and digital media for the following sectors of public importance: economic reforms; foreign affairs; governance reforms; performance and initiatives of Federal Government Ministries/ Divisions/ Departments/ Autonomous and Semi-autonomous Bodies/ Entities etc.; socioeconomic issues; youth empowerment; Kashmir; National Action Plan; public safety and awareness; environment and climate change; tourism; defence and security; digital safety and cyber security; Marka-e-Haq, Youm-e-Tashakur, and the Pakistan-India Standoff.
4. A significant portion of government advertising constitutes a civic and social obligation, in line with Corporate Social Responsibility, to disseminate information on matters of direct public welfare, including polio eradication, population planning, pollution control, public safety, and other subjects of societal importance. These are not promotional campaigns; they are public service communications that directly contribute to the health, safety, and well-being of citizens.
5. Advertisement rates are determined by the Rate Fixation Committee (RFC) as approved by the Federal Cabinet in 2022, based on verified viewership and circulation data. Allocation of TV spots and print insertions is made in accordance with audience ratings and newspaper circulation figures, ensuring that public funds are directed towards outlets with the greatest reach and impact. These matters are regularly deliberated in consultation with the Pakistan Broadcasters Association (PBA) and the All-Pakistan Newspapers Society (APNS), respectively, to ensure fairness and transparency.
6. Furthermore, the pending liabilities for Print, Electronic and Digital Media are cleared on a regular basis so that salaries of employees and outstanding advertisement dues are cleared by respective media houses.

7. Media industry is currently facing crisis particularly sustaining print media industry. More financial support is required by media houses to pay salaries to media workers. Therefore, regional media is being supported across different mediums & platforms through advertisement campaigns with targeted approach to reach out to people at grassroots level.
8. In compliance with the directions of the Hon'ble Prime Minister *vide* Minutes of the meeting No.12(I)/DS(EA-II)/2026-P-002, dated 06.02.2026, PID executed full-spectrum media awareness interventions regarding Prime Minister's Ramzan Relief Package 2026 (Annex-A). The campaign was strategically executed using a region-based targeting approach to ensure effective outreach in the selected priority areas. This targeted strategy enhanced message penetration and improved overall campaign efficiency.
9. The details are as under:-

Sr. No.	Medium	Amount in PKR
1.	Print Media	113,885,380/-
2.	Electronic Media	322,315,570/-

Details are attached (Annex-I&II)

10. The withdrawal percent from Digital wallets was 89% under PMRRP-2026 and it was achieved due to continuous and sustained awareness, engagement and targeted outreach through effective advertisements across all media.

(d) The austerity measures were not in place when PMRRP-2026 was rolled out.

(e) Not Applicable

(f) Not Applicable

(g) Not Applicable

(Annexures have been placed in the National Assembly Library.)

## **FREQUENT TRAFFIC JAMS ON ISLAMABAD ROADS**

**128. \* Syed Rafiullah:**

**Will the Minister for Interior and Narcotics Control be pleased to state:**

- a) whether the authorities concerned have taken the notice of the frequent traffic jams on Islamabad roads, particularly during peak hours and in low-profile or less-monitored areas;**
- b) whether real-time monitoring systems are in place to manage traffic congestion and ensure timely interventions, and if so, the details thereof;**
- c) the existence and implementation of standing instructions to traffic officer to clear bottlenecks;**
- d) whether the absence or non-availability of senior management at critical points during traffic surges contributes to poor administration;**
- e) the impact of closure of certain routes or points, resulting in additional burden on limited entry/exit points;**
- f) the corrective, time-bound measures being taken to improve traffic flow; and**
- g) whether any international traffic management standards or best practices are being adopted to optimize road usage and ensure smooth and safe movement of vehicles?**

**Minister for Interior and Narcotics Control (Senator Syed Mohsin Raza Naqvi):** (a) Islamabad Traffic Police (ITP) has taken cognizance of traffic flow patterns across the Capital and is proactively managing traffic through structured deployment, real-time monitoring, and adaptive traffic management strategies. Special operational arrangements are implemented during peak hours (0700-0900, 1230-1430 and 1600-1900 hours) to regulate traffic demand and ensure smooth flow across major corridors.

It is pertinent to mention that no persistent congestion has been observed on Islamabad roads. However, temporary and situational traffic build-up may occur under specific conditions, including WIP/security movements (resulting in brief stoppages approximately 15-20 minutes), ongoing urban infrastructure

development projects on key arteries and increased vehicular density due to inter-city inflow from adjoining areas such as Rawalpindi and surrounding districts. These factors are transient in nature and do not reflect structural deficiencies in traffic management.

To effectively manage all forms of traffic congestion, Islamabad Traffic Police (ITP) has further strengthened its operational capacity through enhanced deployment and the establishment of a dedicated "Smart Traffic Response Unit" (STRU), aimed at ensuring uninterrupted traffic flow. This unit comprises five (20) vehicles and four (04) motorcycles, supported by real-time monitoring through Safe City surveillance systems, enabling swift identification and clearance of congestion points.

Fifteen (15) Eclectic vehicles have been incorporated into the ITP fleet and strategically deployed at major intersections and critical crossings across the Capital. These vehicles facilitate rapid response to traffic incidents, congestion build-up and emergencies, thereby significantly improving on-ground mobility management and operational efficiency.

Furthermore, the Traffic movement is digitally monitored through safe city cameras, and necessary directions are passed to the field units in case of any congestion observed through surveillance eco-system. Special Drone Teams are also deputed during rush hours on the major avenues including Islamabad Expressway and Srinagar Highway for real time monitoring.

Such situation are effectively managed through adaptive deployment of traffic personnel, real-time diversion planning and immediate response mechanisms, ensuring quick restoration of normal flow. This approach is consistent with international best practices in urban traffic management, where temporary disputes arising from security requirements, infrastructure works, and peak demand fluctuations are addressed through, dynamic traffic control, corridor management and demand- responsive deployment systems.

**(b)** A comprehensive real-time monitoring system is operational comprising Safe City surveillance cameras, live digital traffic flow monitoring tools (such as Goggle Map) and centralized control room coordination. Traffic conditions are

continuously observed through an integrated platform and Special Drone Teams during rush hours on the major avenues enabling immediate Identification of congestion points and prompt issuance of instruction to field officers for swift clearance.

This system facilitates rapid incident detection, allowing early identification of accidents, breakdowns or congestion build-up; supports dynamic traffic clearance through real-time deployment and diversion management and ensure continuous monitoring of congestion hotspots, enabling proactive intervention rather than reactive response. The integrated use of surveillance cameras and digital traffic analytics enhances situational awareness and operational efficiency across the Capital.

Furthermore, the system is aligned with international best practices in urban traffic management, comparable to Urban Traffic Control System (UTCS) implemented, globally. It incorporates elements of Intelligent Transport Systems (ITS), particularly the integration of camera-based monitoring with real-time digital data analytics, as practiced in advanced European traffic management models. This enables informed decision-making, optimized resource deployment, and improved traffic flow management in line with global standards.

**(c)** Standing instructions are in place for the immediate clearance of traffic bottlenecks and a structured Traffic Congestion Response Mechanism is operational across the Capital. This includes the establishment of a dedicated "Rush Hour Management Unit", proactive deployment of additional manpower at identified congestion zones and continuous physical monitoring by supervisory officers at critical points. These measures ensure that traffic conditions are managed both proactively and responsively, particularly during peak hours.

The system is designed to ensure immediate clearance of bottlenecks, preventive positioning of traffic staff at congestions/locations and continuous supervision to maintain uninterrupted flow during peak hours. Field officers remain in constant coordination with the control room, enabling swift response and real-time adjustments in deployment and traffic diversion where required.

This operational framework is aligned with International Incident Management practices, similar to "**Incident Management Systems**" (IMS) where dedicated response units are deployed for rapid clearance of traffic disruptions. The use of structured response teams and targeted deployment strategies ensures efficient restoration of traffic flow and reflects adherence to globally recognized management standards.

**(d)** Senior Management maintains continuous situational awareness of traffic conditions through an integrated monitoring framework comprising Safe City live feeds, digital traffic flow analytics, direct field reporting mechanisms and Special Drone Teams. These tools enable real-time visibility of traffic conditions across the Capital, allowing supervisory officer to remain actively engaged and responsive to emerging situations. Furthermore, the senior officers are present themselves in the field during peak hours and closely monitor the traffic operations. This continuous oversight ensures strategic decision making, resources real-time Intervention at critical congestion points and allows reallocation of resources based on traffic demand and operational requirements. Supervisory officers are not only monitoring remotely but also conduct field supervision where necessary to ensure effective traffic regulation and prompt Resolution of bottlenecks.

The overall approach reflects a command- and-control model, which is consistent with Internationally adopted traffic policing and management frameworks.

**(e)** Development Projects in Rawalpindi including the Kacheri Chowk remodeling did have an Impact on the traffic flow on major avenues Including Expressway Murree Road and 9th Avenue. However, the Impact was taken care of by deploying Additional Resources and digital monitoring.

Temporary congestion arises due to security arrangements, particularly the establishment of checkpoints (NAKAs), which are essential for ensuring public safety and preventing untoward Incidents. Such measure can momentarily Increase traffic pressure at key entry and exit points. However, these situations are actively and efficiently managed by Islamabad Traffic Police.

To mitigate any Impact, traffic personnel are proactively deployed at sensitive locations, especially at major entry/exit points, to regulate traffic flow in real time. The movement of vehicles is managed through a combination of manual control on ground and digital coordination via Safe City monitoring systems, ensuring smooth passage wherever possible. Continuous monitoring and on-ground supervision enable active traffic management, minimizing delays and preventing prolonged congestion. Islamabad Traffic Police ensures that security imperatives are met without significantly compromising traffic mobility.

**(f)** A comprehensive and multi-dimensional set of corrective and time **bound** measures has been implemented by Islamabad Traffic Police (ITP) to improve traffic flow, combining traffic engineering, enforcement and management interventions in line with modern urban traffic control practices.

The integrated Traffic Solution (ITS) will empower signals to intelligently detect congestion levels in real time and automatically adjust their operation to optimize traffic flow, reduce delays, and enhance overall road efficiency.

The E-Challan pilot project has been implemented on the Express Highway, where the system is capable of detecting 17 categories of traffic violations. Under the Safe City expansion project, 594 cameras will be installed at 127 locations, which will assist in identifying stolen and cloned vehicles. Furthermore, this system will be integrated with the Excise Departments of Islamabad, Punjab, and Sindh to ensure seamless coordination and enforcement.

At the strategic level, it is pertinent to highlight that a significant volume of inter-provincial traffic, particularly heavy vehicles, passes through major arteries such as IJP Road, Srinagar Highway and Islamabad Expressway, contributing to congestion due to the absence of an alternative bypass system. In this context, the construction of the Islamabad Ring Road from Margalla Hills to Rawat is a critical requirement to divert through-traffic away from the city. Similarly, the development of service roads along Islamabad Expressway is essential to accommodate slow-moving traffic and reduce pressure on main carriageways.

The lack of maintenance of service roads by the CPA is contributing to increased traffic congestion, which can be significantly reduced if these roads are properly maintained.

**(g)** Islamabad Traffic Police has adopted key elements of international traffic management practices through a structured and technology-driven approach. This includes the implementation of "**Intelligent Transport Systems (ITS)** components, such as real-time monitoring through Safe City surveillance cameras and integration of digital traffic analytics tools enabling continuous assessment of traffic conditions and informed decision-making.

In terms of demand management, ITP employs structured peak-hour deployment strategies and corridor-based traffic control, ensuring optimal utilization of available road capacity during high-demand periods. For incident management, dedicated rapid response units are operational for immediate clearance of congestion and disruptions, supported by a real-time dispatch system through centralized monitoring.

Furthermore, strong emphasis is placed on enforcement and compliance, including lane discipline enforcement and systematic traffic regulation through planned and structured deployment of personnel across key locations.

Looking ahead ITP is also considering further alignment with advanced international practices, including the introduction of adaptive traffic signal system, AI-based congestion prediction models, and integrated urban mobility platforms aimed at enhancing efficiency, optimizing road usage, and ensuring safe and smooth movement of traffic in the Capital.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

**DETAILS OF VACANT/UN-CONSTRUCTED PLOTS MALL ROAD, RAWALPINDI**

**8. Mr. Sher Afzal Khan:**

**Will the Minister for Defence be pleased to state the details of the vacant/un-constructed plots on the side of the Mall Road of Rawalpindi Cantt, size and names of the owners, maximum time period for constructions and the action taken on non-construction?**

**Minister for Defence (Khawaja Muhammad Asif):**

Plot No.	Survey No.	Size/Area	Name of owner leases	Time period constructions and the action taken on non-construction.	Present States
92	394	5301.115	M/s Rawal Center(Pvt) Ltd through a. Nawaz Ahmed Minhas (10%share). b. Muhammad Sikandar Minhas (20% Share). c. Muhammad Nadir Minhas (70%share)	As per section 183 of Cantt Act 1924 (Amended 2023). One year time is available for erection/ re-erection of a building and as per section 183-A of the Act ibid two extensions of the said period are allowed.	At present case for transfer of shares of present directors of M/s Rawal center (pvt) Ltd in the lease hold rights of said property in favor of a. Muhammad Suleman Khan (0.0000017% share), b. Mohabbat Khan (29.9999985 share). c. Zahir Khan (70% share) on the basis of Form-9 and Form-3 issued by SECp is under process

Vacant Plot regarding Question No. 8 (Annex-B)

It is reported that there is no vacant plot on the both sides of the Mall road from TM Chowk to MH Chowk under the management of Rawalpindi Cantt Board.

(Annex has been placed in the National Assembly Library.)

**DETAILS OF PROPERTIES ON LEASAE/RENT IN PESHAWAR AND ABBOTTABAD CANTT**

**20. Mr. Sher Afzal Khan:**

**Will the Minister for Defence be pleased to state the details of the properties constructed on one kanal and more on lease/rent in Peshawar and Abbottabad by the Cantonment Boards, alongwith size of the plot, lease/rent amount, date of allotments, name of the allottee and the detail of any increase made during the last five years?**

**Minister for Defence (Khawaja Muhammad Asif):**

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of allotment</b>	<b>Date of allotment</b>	<b>Area of Plot</b>	<b>Svy No/ Location</b>	<b>Lease Rent</b>	<b>Increase made during last 5 years</b>
1	Zaib-un-Nisa & others	16-12-1999	1.8 Kanal (9927.89sft)	Svy no. 177/3/1 Part Karim Pura Abbottabad	Rs. 2543/-	Nil
2	Nusrat Salah-ud-din & others	17-10-1998	3.69 kanal (920145.50Sft)	Svy No. 221/13 main Bazar Abbottabad	Rs. 8953/-	Nil
3	M/s Pakistan National Oil Limited	17-05-1967	2.20 Kanal (12000sft)	Svy No. 2023 (part) The Mall mansehra Road Abbottabad	Rs. 2000/-	Nil
4	M/s Saeed Akhtar & others	12-06-1979	1.45 Kanal (7920 sft)	Svy No. 203/1 The Mall (Mansehra Road Abbottabad)	Rs. 871/-	Nil

(Annex has been placed in the National Assembly Library.)

**NEW PASSPORT OFFICE ESTABLISHED IN KARACHI**

**23. Ms. Shahida Rehmani:**

**Will the Minister for Interior and Narcotics Control be pleased to state:**

- a) the number of Passport Offices established in the new or suburban areas of the Karachi during the last five years;**
- b) the number of those offices which have been setup keeping in view of population density and geographical necessity; and**

**c) whether any feasibility study has been conducted for the establishment of a Passport Office in Gulshan-e-Maymar; if not, the reasons thereof?**

**Minister for Interior and Narcotics Control (Senator Syed Mohsin Raza Naqvi):**

**(a)** The Directorate General Immigration & Passport has established no new Passport Offices in the suburban areas of Karachi during last five years.

Following Regional Passport Offices and two passport counters in NADRA Mega Centers at Nazimabad and Siemens Chowrangi, working on 24/7 basis to provide adequate facilities to the passport seekers during last five years:

- i. Regional Passport Office, Awami Markaz, Saddar Karachi (24/7 basis).
- ii. Regional Passport Office, Karachi-II, Saddar Karachi.
- iii. Regional Passport Office, Karachi-III, Saddar Karachi.
- iv. Regional Passport Office, Karachi-IV, Saddar Karachi.
- v. Regional Passport Office. Malir, Karachi.
- vi. Executive Passport Office, Clifton, Karachi.

**(b)** In view of population density and geographical necessity, it has been observed that four offices presently operating in Saddar Karachi are proposed to be devolved to their respective districts. In this regard, letters has been addressed to the Deputy Commissioners of all districts with the request to identify and provide suitable premises for the relocation of these offices within their respective Regions/ Districts.

This measure is intended to facilitate the resident of these areas and improve the accessibility of departmental services to the general public.

Furthermore, the department has already taken a decision to establish two additional offices at Super Highway and DHA Karachi The process for establishment of these offices is currently underway.

**(c)** Gulshan-e-Maymar is situated in the sub tehsil of Gulshan-e-Iqbal District Karachi East. The population of said area is less than one Million, whereas, the criteria for establishment of new Regional Passport Office as per Rule 4 (3) of Passport Rules, 2021.

Hence, no such proposal is under consideration for establishment of passport office at Gulshan-e-Maymar Karachi.

(d) In this regard, it is submitted that the criteria for establishment of new Regional Passport Office as per Rule 4 (3) of Passport Rules, 2021, states that:

**“(3) Subject to sub-rules (1) and (2), passport offices shall be established in all districts of Pakistan and ail subdivisions having population of one million or above.”**

However, the jurisdiction policy has been waived off enabling the passport seekers to process their passport application from any passport offices across Pakistan. Moreover, the Department has also launched an inland online web portal, for passport renewal facility since July 2023 which is also available on 24/7 basis all over the country.

In addition to above, the Department is going to launch a Digital Mobile Application which will further facilitate the general public to apply passport from their home and offices at their convenience.

### **SPEED BREAKER INSTALLED FOR PRIVATE SCHOOLS IN BLUE AREA**

**34. Mr. Muhammad Moin Amer Pirzada:**

**will the Minister for Interior and Narcotics Control be pleased to state:**

- a) the speed breakers Cat Eyes have been installed for Private Schools in Blue Area, G-6 and I&T Center; and**
- b) whether there are Cat Eyes in front of Sukh Chain and reasons for not constructing in Blue Area and G 6 I&T Center?**

**Minister for Interior and Narcotics Control (Senator Syed Mohsin Raza Naqvi): (a)** It is submitted that no speed breakers or cat eyes have been installed in front of private schools located in Blue Area G-6 and I&T Center.

**(b)** The speed breakers and cat eyes installed in front of Sukh Chain were verified with the concerned approving authority, which confirmed that no formal approval

had been granted for this installation. Accordingly, the concerned team has been deputed and the unapproved installations shall be removed.

**LACK OF PLAYGROUND AND PUBLIC PARK IN RAWALPINDI**

**38. Ms. Naeema Kishwer Khan:**

**Will the Minister for Defence be pleased to state:**

- a) whether it is a fact that no playground or park is available in Friends Colony, Officer Colony Lane No. 1 to 7, Ameer Hamza Colony, Bhatta Chowk Road, Misrial Road Rawalpindi and a huge adjacent area under Cantonment Board Rawalpindi, despite the availability of land for the construction of a playground/park, causing difficulties for the residents due to the lack of playground and public park;**
- b) whether it is also a fact that drug addictive persons sit in the mentioned areas in evening;**
- c) if part (a) is in affirmative, so when a playground and a public park will be made;**
- d) if part (b) is in affirmative, so what action has been taken so far; if not, the reasons thereof; and**
- e) the time by which a strict action will be made against drug addicts in the mentioned areas?**

**Minister for Defence (Khawaja Muhammad Asif):** (a) The area pointed out by the honorable Member does not have Park or playground facilities. These localities were originally part of the village Dhoke Gujran and are situated on privately owned land which was sold in small portions by local resident over time. Due to unplanned population growth and the absence of approved town planning. The area developed into congested residential settlements without reserved public spaces at present. There is no unutilized CB land available for the development of parks or Playgrounds. RCB is maintaining 8 X Parks which are available reside available for all Rawalpindi Cantt resident.

(b) This matter not pertain to RCB the Anti-Narcotics Department is responsible for dealing with drug addicts and drug-related issues.

(c) It has already been explained in the reply to question No.1 that no land is currently available for the development of a park However, a Playground / Public park can be developed subject to the availability of suitable land and funds in the future.

(d) Does not pertain to RCB

(e) Does not pertain to RCB

#### LEAVE OF ABSENCE

**Mr. Speaker:** Leave applications.

**Mr. Speaker:** Mr. Usman Ali has requested for the grant of leave for 10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> June, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

**Mr. Speaker:** Mr. Muhammad Abdul Ghaffar Watto has requested for the grant of leave from 12<sup>th</sup> to 23<sup>rd</sup> June, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

**Mr. Speaker:** Mr. Umar Farooq has requested for the grant of leave for the whole current Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

#### THE PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION (CONVERSION) (REPEAL) ACT, 2026

جناب سپیکر: میں آنریبل ممبران سے request کروں گا کہ ہم آئٹم نمبر 8 پر جاننا چاہ رہے ہیں۔ ڈیفنس منسٹر صاحب کے مہمان بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں، شاید ان کے counter part ہیں۔ آئٹم نمبر 8، خواجہ محمد آصف 08 to move Item No. 08 کریں۔ وہ اس آئٹم کو move کرنے کے لیے ان کو اپنے چیئرمین بٹھا کے آئے ہیں۔

**Minister for Defence, (Khawaja Muhammad Asif):** I, move that the Bill to repeal the Pakistan International Airlines Corporation (Conversion) Act, 2016 [The

Pakistan International Airlines Corporation (Conversion) (Repeal) Act, 2026], as passed by the Senate, be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. Syed Naveed Qamar Sahib.

**Syed Naveed Qamar:** We are not opposing the Bill; however, there are certain points on which we need clarification because the public is asking these questions again and again. So, before we vote for the Bill, I would want Minister concerned, Defence Minister or the Privatization Minister who is also present, here should give us some clarity on some questions.

There is a lot of concern about the fact that the headquarters of PIA, which has always been in Karachi, may be shifted out of Karachi. We need clarity on whether that is going to happen or not?

Secondly, there is a clause which gives a one year guarantee of service to the employees of PIA. My question would be, what would happen at the end of that one year? when does it start? when does it end? And what plan is there to absorb these employees, give them GHS, or just let them go wherever, because that might cause problems on the streets of Pakistan?

No. 3, what is the current status of the partnership or consortium that has put in the bid, and what is the shareholding of each one of them? What is the plan for change of management, if there is any, and how long will that take? So, that we know that a true privatization is taking place and not just a change of certain faces, please.

جناب سپیکر: خواجہ صاحب آپ جواب دیں گے؟ جی محمد علی صاحب  
Advisor on Privatization.

مشیر برائے نجکاری (جناب محمد علی): شکریہ جناب سپیکر! سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا اگر میں background دے دوں تاکہ ان میں سے کچھ سوال automatically answer ہو جائیں گے۔ PIA کی privatization کے لیے تقریباً 20 سال سے کئی attempts ہوئے اور پچھلے پندرہ سال میں پاکستان کا تقریباً پانچ سو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے losses کو پورا کرنے کے لیے۔

ماشاء اللہ دسمبر کے اندر ایک open and competitive process کے through جس میں تین bidders نے participate کیا، Government نے PIA privatize کی اور دسمبر سے آج تک تقریباً چالیس سے زیادہ ایسی conditions تھیں جو ہمیں meet کرنی تھی to hand it over to the private sector جو wining consortium ہے۔ یہ condition global lenders کی تھی aviation authorities کی تھی FBR کی تھی وغیرہ وغیرہ اور یہ Act اس کی ایک کڑی

ہے، اس Act کے pass ہونے کے بعد we will be handing over the management to the private sector.

سوال جو ہے کہ PIA کا جو consortium ہے، تین bidders میں سے جو winning consortium تھا وہ Arif Habib led consortium تھا۔ ان کے ساتھ Fatima Fertilizer میں consortium ہے، Lake City، ہے، School ہے، AKD Group ہے اور ان کو پھر Fauji Foundation نے بھی join کیا ہے، چھ partners ہیں پاکستان کا one of the strongest group ہے، جہاں تک shareholding کا سوال ہے، Arif Habib Corporation کی تقریباً 34 فیصد shareholding ہے، Fauji Foundation کی تقریباً 33.9 فیصد ہے، جبکہ باقی تقریباً 32 فیصد shareholding دیگر چار partners کے پاس ہے۔

اس میں جو total investment ہوگی۔ جب ہم نے privatize کیا تھا تو 75 فیصد کی bidding ہوئی تھی، بعد ازاں خریداروں کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ اگر وہ چاہیں تو باقی 25 فیصد بھی تو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ اختیار استعمال کر لیا، لہذا پنی آئی اے کی 100 فیصد shareholding نجی شعبے کو منتقل ہو جائے گی، total investment جو bidders کریں گے in the next one year وہ 180 ارب روپے کی investment ہوگی اور this is the largest privatization in the history of Pakistan. 180 billion investment ہوگی۔ اس میں سے 125 ارب روپے PIA کی بحالی اور ترقی پر خرچ کیے جائیں گے، جبکہ 55 ارب روپے حکومت کو ادا کیے جائیں گے۔ So, that is the total investment and the numbers. Head Office کا تعلق ہے، جب کوئی کمپنی مکمل طور پر نجی شعبے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اس case میں 100% private ownership ہوگی Government کا کوئی stake نہیں ہوگا تو legally ہمارے پاس ایسا کوئی right نہیں ہے کہ ہم impose کریں کہ Head Office کہاں پر رکھیں گے اور from a business perspective private sector shareholders right ہوگا کہ وہ کہاں رکھتے ہیں، frankly کہاں رکھتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ یہ ان کا Board decide کرے گا اور decide کریں گے۔

جہاں تک employees کا سوال ہے۔ اسکے اندر ہم نے تینوں bidders سے بہت negotiations کی اور finally ہم نے، جیسے نوید قمر صاحب نے یہ فرمایا کہ بارہ ماہ تک تمام employees کی job protected ہے اور protection کے ساتھ ساتھ ان کی جو employment terms ہیں وہ بھی change نہیں ہو سکتے adversely۔ Secondly ان کی جتنی بھی pensions ہیں وہ سب payments ہوں گی اور جتنے بھی retirees ہیں ان سب کی pensions کی payments ہوتی رہے گی، جس طریقے سے

past میں ہوتی رہی ہے اور ان کے جو باقی benefits تھے وہ سارے ensure کیے گئے ہیں تو employees کے لیے اس میں جتنی بھی کے bidders کے SPA sign کیا ہے اور maximum protection اور insurance تھی وہ ہم نے کی ہے اور یہ تمام چیزیں ہم نے جو SPA sign کیا ہے کے ساتھ جو کہ Cabinet نے approve کیا ہے اور جتنی بھی relevant ministries تھیں ان سب نے approve کیا ہے۔ اس کے اندر ensure کی گئی ہیں۔ شکر یہ۔

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the Bill to repeal the Pakistan International Airlines Corporation (Conversion) Act, 2016 [The Pakistan International Airlines Corporation (Conversion) (Repeal) Act, 2026], as passed by the Senate, be taken into consideration at once.

(The Motion was adopted.)

**Mr. Speaker:** Clause by clause reading. The Bill is now taken up clause by clause.

**Mr. Speaker:** Clause 2. Now, I put clause 2 to the House. The question is that clause 2, do stand part of the Bill.

(The clause 2 stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 1, Preamble and Short Title. Now, I put clause 1, Preamble and Short Title to the House. The question is that clause 1, Preamble and Short Title do stand part of the Bill.

(The clause 1, Preamble and Short Title stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Khawaja Muhammad Asif Sahib to move Item No. 09.

**Khawaja Muhammad Asif:** I move that the Bill to repeal the Pakistan International Airlines Corporation (Conversion) Act, 2016 [The Pakistan International Airlines Corporation (Conversion) (Repeal) Act, 2026], be passed.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the Bill to repeal the Pakistan International Airlines Corporation (Conversion) Act, 2016 [The Pakistan International Airlines Corporation (Conversion) (Repeal) Act, 2026], be passed.

(The Motion was adopted and the Bill was passed.)

#### POINT OF ORDER

جناب سپیکر: محمود خان صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے، گوہر صاحب آپ بات کیجئے۔

جناب گوہر علی خان: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شکر یہ جناب سپیکر! میں ایک بہت اہم issue اس پارلیمنٹ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا۔ اور جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو شاید حکومت اس کو کوئی light side پہ لے رہی ہے اور ہم نے بارہا کوشش کی ہے کہ ہماری آواز کو سنا جائے، ہمارے concern کو address کیا جائے اور یہ ابھی سے نہیں ہے جناب سپیکر! یہ گزشتہ دو سال سے ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی 175 political parties میں سے سب سے بڑی political party ہے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی ignore نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک ہی رہبر، ایک ہی رہنما ہے، جس کے سر پہ دستار ہے، وہ عمران خان نیازی ہے جناب سپیکر! اس کا تذکرہ ہم نے بارہا کیا ہے۔ اس کے نام کا ووٹ عوام نے ہمیں دیا ہے اور ہم یہاں منتخب ہو کے آئے ہیں۔ 91 بندے اس وقت بیٹھے تھے، representation تھی اور ہمارے پاس تین کروڑ ووٹ پاکستان کے بارہ کروڑ registered ووٹوں میں سے چھ کروڑ ووٹ poll ہوئے تھے اور ہمارے حصے میں تین کروڑ ووٹ آیا ہے، جبکہ 168 political parties میں تین کروڑ ووٹ گیا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ Election Commission کی website پہ جناب سپیکر available ہے۔

ہم نے بارہا کہا کہ ہمیں access دیں، ہماری leadership تک، تاکہ ہم ان سے instructions لے سکیں۔ جناب سپیکر! ہم نے یہاں ایک Resolution move کر دی، جو آپ نے put up کی اور ایک Special Committee بنی جس کی سربراہی ہم نے خود کہا کہ شاہ صاحب اس کی سربراہی لے لیں، خورشید شاہ صاحب اس کی سربراہی لے لیں۔ جناب سپیکر! اس میں precisely ہم نے ڈال دیا تھا کہ Parliamentarians کی کوئی reservations ہیں تو اس کو پہلے address کریں۔ ہم عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے اس پارلیمنٹ میں اپنی آواز کیسے عوام تک پہنچائیں گے، جب ہمارے اپنے concerns address نہ ہوئے ہوں، جب ہم اندر خود اور ہماری leadership جو ہے وہ under threat ہو۔ جناب سپیکر! اس committee کی دو meetings ہوئیں اور اس کے بعد اس committee کی کوئی meeting نہیں ہوئی۔ وہ Special Committee آج تک disband ہے، بلکہ dormant ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے ریاست کا ساتھ دیا، پاکستان کا ساتھ دیا، اس ایوان کا ساتھ دیا۔ اچھڑتی صاحب نے کہا کہ کوئی compromise نہیں ہوگی، ایوان کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، ہم بغیر ifs and buts کے اس ایوان کے ساتھ ہیں۔

لیکن جناب سپیکر! گزشتہ چونتیس ہفتوں سے ہماری ملاقات خان صاحب کے ساتھ نہیں کرائی جا رہی۔ جنوری سے خان صاحب کے علاج کے سلسلے میں آج تک ان کا ذاتی معالج نہیں ملا۔ جناب سپیکر! مئی 2025 کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں سنا جائے گا، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارے mandate کی قدر ہوگی، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم بھی اس ایوان کا حصہ ہیں، ہماری آواز کو نہ صرف سنا جائے گا بلکہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اس ایوان کے لوگ جب آپ کے ساتھ بیٹھے تھے جناب سپیکر! ہم آج بھی ان کو miss کر رہے ہیں۔ چاہے وہ عمر ایوب خان صاحب تھے، چاہے وہ حامد رضا

صاحب تھے، چاہے وہ رائے حیدر صاحب تھے، چاہے زرتاج گل تھیں، چاہے احمد چٹھہ صاحب تھے، چاہے ہمارے دستی صاحب تھے، چاہے وہ چترالی صاحب تھے، ہم ان کی loyalty کو سلام پیش کرتے ہیں، خان کے نظریے پہ وہ قربان ہو گئے۔

جناب سپیکر! ہم نے Middle East کے role کو بھی appreciate کیا اور میں نے حامد رضا صاحب کا بھی نام لیا ہے۔  
 جناب سپیکر! ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا کیا صلہ مل رہا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، مجھے شعر بہت کم آتے ہیں۔ مستی خیل صاحب مجھے شعر بہت کم آتے ہیں لیکن جناب سپیکر! یہ شعر سب کچھ کہہ دے گا، یہ وہ تصویر ہے جو ایک ہزار sentences سے زیادہ ہے۔  
 ایک شاعر کہتا ہے:

زندگی بھر کی مجھ کو سزا دے گیا

کیا دیا میں نے تجھ کو تو کیا دے گیا

جناب سپیکر! ہمارے یہاں کھڑے ہونے سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ جناب سپیکر! آج ہم ایک فیصلہ کر رہے ہیں۔

جناب سپیکر: شکر یہ جی پلیز wind up کیجئے تاکہ Business لیں۔

جناب گوہر علی خان: جناب سپیکر! Close کر رہا ہوں۔

جناب سپیکر: جی۔

جناب گوہر علی خان: جناب سپیکر! ہم اپنی reservation کا اور اس کا کس سے شکوہ کریں؟ عدلیہ سے شکوہ کریں، جس نے کوئی relief نہیں دیا اور ہم کہتے رہے عدلیہ میں reforms ہونی چاہئیں۔ جو کچھ بچا کھچا تھا چھیسویں، ستائیسویں ترمیم نے ان پہ پانی پھیر دیا۔ لیکن جب ترمیم نہیں بھی تھیں تب بھی ہمارے concerns کے لیے نہیں آئے۔

جناب سپیکر! یہ ایوان عوام کے لیے ہے۔ ہم آپ سے Ruling مانگتے ہیں، ہمیں خان تک access دے، ہماری آواز کو نہ دبائیں، اس کو سنیں، ہماری reservation کو address کریں۔ آج ہم کس کو قصور وار ٹھہرائیں؟ اس ایوان کو کرائیں، عدلیہ کو ٹھہرائیں، جناب سپیکر! کہ ریاست کو ٹھہرائیں۔ جب تک ہمارا یہ فیصلہ نہیں ہوتا، ہم نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آج ہم Joint Parliamentary Party کی Meeting کریں گے کہ کیا آئندہ ہمیں اس پارلیمنٹ میں رہنا ہے، کوئی اس عوام کی اگر ہم help نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم عوام کی مدد ہم نہیں کر سکتے، عوام کی لیڈر کی بات ہم یہاں ایوان میں نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

لہذا ہم as a protest walk out کرتے ہیں جناب سپیکر اور آج ہم future کے لیے فیصلہ کریں گے۔ میں آپ کے گوش

گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ Ruling دے دیں۔ یہ meeting ہر صورت ہونی چاہیے خان والی اور کل تک ہماری meeting ہر صورت ہو۔

ہم نے ہر صورت میں effort کی، ہم نے دفاع پہ کہا کہ کوئی آنچ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے ہر وقت کہا کہ یہ ہونا چاہیے but کوئی بات ہے کہ ہماری آواز آگے تک نہیں جا رہی۔

جناب سپیکر! یہ ifs and buts ختم کریں، یہ جو اتنی چیزیں سچ میں لائی گئی ہیں اس کو ختم کر دیں۔

جناب سپیکر! یہی ہمارا آج کا فیصلہ ہے۔ ہم walk out کریں گے۔ لیکن ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ Ruling دیں گے اور

ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم آج ہی فیصلہ کریں گے future کے course کا۔ Thank you Mr. Speaker.

جناب سپیکر: اگر گوہر صاحب وہ ممبر ہوتے نیشنل اسمبلی کے تو میں Production Order جاری کر دیتا جو آپ لوگ نہیں کرتے

تھے ہم کم از کم کر دیتے ہیں۔ ملاقات آپ کے ساتھ، آپ کے اور گورنمنٹ کی میں نے تین ملاقاتیں کرائیں۔ آپ لوگوں نے وہ سلسلہ توڑ دیا، ہم نے تو پوری کوشش کی تھی اور گورنمنٹ بھی تیار تھی۔ شکر یہ جی۔

(اس موقع پر اپوزیشن کے معزز اراکین ایوان سے walk out کر گئے)

جناب سپیکر: اب ہم Item No. 4 پہ آتے ہیں، Business لے لیتے ہیں پھر Points of Order پہ بہت سے ممبران بات

کرنا چاہتے ہیں، خاص طور سے بلوچستان کے ممبران وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بیٹھ جاتے، تو گفتگو سن لیتے۔

**Mr. Speaker:** Item No. 4. Muhammad Jawed Hanif Khan to move Item No.

4.

(مداخلت)

### MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

جناب سپیکر: اس کو تسلی سے کرنا پڑے گا، ہم یہ Items لے کے اس کے بعد Calling Attention پہ تسلی سے جواب

چاہیے۔ نہیں detail جواب چاہیے۔ Water کے Minister کو ہم نے بلایا ہوا ہے وہ تشریف رکھتے ہیں۔ Detailed جواب دیں گے۔ جی

آنٹیم نمبر 4۔

**Mr. Muhammad Jawed Hanif Khan:** I, as Chairman Standing Committee on Commerce, move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Life Insurance (Nationalization) Order, 1972 [The Life Insurance (Nationalization) (Amendment) Bill, 2026], till today be condoned.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the Bill

further to amend the Life Insurance (Nationalization) Order, 1972 [The Life Insurance (Nationalization) (Amendment) Bill, 2026], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE LIFE INSURANCE (NATIONALIZATION) (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Item No. 5. Muhammad Jawed Hanif Khan to move Item No. 5.

**Mr. Muhammad Jawed Hanif Khan:** I, as Chairman Standing Committee on Commerce, present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Life Insurance (Nationalization) Order, 1972 [The Life Insurance (Nationalization) (Amendment) Bill, 2026].

**Mr. Speaker:** The said report stands presented.

**Mr. Speaker:** Item No. 6. Shaza Fatima Khawaja Sahiba.

ڈاکٹر طارق صاحب اس Item No. 6 کو drop کر دیں؟ منسٹر صاحبہ تشریف نہیں لائیں۔ آپ move کیجئے۔  
وزیر برائے پارلیمانی امور (جناب طارق فضل چوہدری): سر! اگر آپ اجازت دیں تو میں move کر دیتا ہوں۔  
جناب سپیکر: جی move کیجئے۔ اپنا iPad نہیں لے کے آئے۔ ان کو کل سے کاغذ مت دیجئے گا۔ جی۔  
جناب طارق فضل چوہدری: سر! اس کی battery down ہو جاتی ہے، battery اس کی charge نہیں تھی۔  
جناب سپیکر: جی۔

**Mr. Tariq Fazal Chaudhary:** Thank you sir. Sir! I on behalf of Minister for Information Technology and Telecommunication, move that the Bill further to amend the Pakistan Telecommunication (Re-organization) Act, 1996 [The Pakistan Telecommunication (Re-organization) (Amendment) Bill, 2025], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

جناب سپیکر: جی، نوید صاحب oppose کر رہے ہیں۔

**Syed Naveed Qamar:** Sir! I am not opposing the Bill, but this is a very extensive Bill, and I am surprised that our honourable Minister is not here to present it and explain to the House what is happening. I am sure that the Minister for Parliamentary Affairs is smart and he can handle a lot of things, but the depth of knowledge required for this particular Bill warrants the Minister's presence, Sir.

I would ask you to take one or two other Items since so that we may have the Minister present.

**Mr. Speaker:** Doctor Sahib! Please kindly get are here because this is a technical issue. I think you will not be able to answer. Call the Minister here

ہم اس کو ابھی روکتے ہیں باقی Items ہم لے لیتے ہیں۔ تو بلو ایسے ان کو پلیز۔ آپ ذرا تشریف لے جائیں۔

**Mr. Tariq Fazal Chaudhary:** Ok right sir.

**CALLING ATTENTION NOTICE REG: IRSA'S ARBITRARY ACTIONS CAUSING AN ACUTE SHORTAGE OF WATER IN SINDH AND BALOCHISTAN**

to move Item No. 3. Minister for **جناب سپیکر:** تو پھر Calling Attention پہ آجائے۔ سید نوید قمر صاحب

Water تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فون کیجئے ان کو۔۔۔

سید نوید قمر: کوئی بھی وزیر صاحب نہیں ہیں؟

جناب سپیکر: جی، بیٹھے ہوئے ہیں۔

**Syed Naveed Qamar:** Ok. Sir! I invite attention of the Minister for Water Resources, to a matter of urgent public importance regarding IRSA's arbitrary actions causing an acute shortage of water in Sindh and Balochistan, severely impacting agricultural outputs and creating hardships, causing grave concern amongst the public.

**Mr. Speaker:** Mueen Watto Sahib, Minister for Water Resources, please you are supposed to make a brief statement, but specific.

وزیر برائے آبی وسائل (جناب محمد معین وٹو): جی بالکل، شکریہ جناب سپیکر! اس میں سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ IRSA کی طرف

سے پوری وضاحت دی گئی ہے کہ تمام جو صوبے ہیں ان میں خریف کے لیے جو پانی کی distribution ہے اس کے دو حصے ہیں سر۔ ایک early

خریف اور ایک late خریف۔ اور early خریف وہ 1<sup>st</sup> April, 2026 سے شروع ہوگا اور وہ 10<sup>th</sup> June تک آئے گا پھر 11<sup>th</sup>

June سے 30<sup>th</sup> September تک second phase اس کا آئے گا۔ اور اس سلسلے میں IRSA کی جو Advisory

Committee ہے ان کی 7<sup>th</sup> April meeting کو ہو چکی ہے جس میں تمام صوبوں کے ممبران اور تمام صوبوں کے Irrigation

Secretaries، تمام صوبوں کے Agriculture Secretaries وہ موجود ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں جو decision لیا گیا اس

کے مطابق جو early خریف phase one کے پانی کی جو supply تھی وہ accordingly اسی طرح supply دی گئی اور اس میں خاص

طور پہ میں جناب محترم نوید قمر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے حوالے سے جو decision لیا گیا تھا Advisory

Committee میں، اس سے 10 فیصد سندھ نے پانی زیادہ استعمال کیا ہے۔ یہ facts and figures IRSA کی طرف سے موصول ہوئے ہیں۔

جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، بلوچستان کی طرف سے جتنی indenting ہوئی ہے اور جتنا پانی وہاں سے مانگا گیا ہے اتنا اس کے مطابق پانی supply کیا گیا ہے، پانی ان کو دیا گیا ہے کوئی کسی قسم کی کوئی اس میں variation نہیں ہے۔ شکر یہ۔  
جناب سپیکر: نوید قمر صاحب ایک سوال کیجئے۔

سر! گزارش یہ ہے کہ honourable Minister صاحب خود کا شکر ہیں انہیں پتا ہے کہ ہر فصل لگانے کی timings ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس میں late ہو گئے تو آپ کا output اس طرح سے نہیں ہوتا جتنا کہ on time ہوتا ہے۔ جو IRSA کی explanation آئی ہے that has already been rejected by the Sindh Government and the Sindh Irrigation Department. For example، میرا تو آخری districts میں سے آتا ہے اور ہمارے پاس rice crop لگانے کے لیے اس وقت پانی نہیں ہے Meeting which will impact the crop. Meeting کرنا لگ بات ہوتی ہے، meeting میں dissent اگر آتا ہے تو اس کو بھی تو آپ کو take into account کرنا ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ موجود تھے۔ اس دفعہ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ IRSA نے سندھ کے lower riparian کے opinions کو overrule کیا، اور پانی کے حساب سے آخر میں averages میں سب چیز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جس دن پانی چاہیے تھا اس دن نہیں ملا تو اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں مل رہا۔

جناب سپیکر: وٹو صاحب۔

جناب محمد معین وٹو: سر! اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کیم اپریل، بالکل season ہے، میں بھی کا شکر ہوں جیسے انہوں نے فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب Advisory Council نے یہ فیصلہ کیا تو اس وقت متوقع جو 15% shortage of water تھی، اس کو پیش نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اتنی مقدار میں پانی دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود سندھ نے اپنے required اور اس decided، جو Advisory Committee کا decision تھا، اس سے زیادہ پانی استعمال کیا۔ اب اس وقت ایک لاکھ چالیس ہزار کیوسک پانی سندھ کو دیا جا رہا ہے، اور گدو سے اس وقت 90 ہزار کیوسک پانی سندھ کو دیا جا رہا ہے۔ اور اب second phase شروع ہو گیا ہے، اور second phase میں پانی میں بتدریج اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آج سے پانچ دن پہلے seventy-five thousand cusecs کی supply تھی، آج اس وقت 90 ہزار ہے، اور ویسے اب ایک لاکھ 40 ہزار ہو جائے گا۔ پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے کیونکہ second phase کے حساب سے

اس میں زیادہ پانی جانا ہے۔ تو وہ جو نوید قمر صاحب کو apprehension ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں رہے گی، اور پانی ضرورت کے وقت ضرور پہنچے گا۔

جناب سپیکر: شازیہ مری صاحبہ، ایک سوال کیجئے۔

شازیہ مری: جناب سپیکر! بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ ایک بہت اہم issue ہے، اس پر بات ہوئی ہے۔ اب آپ ہمیں ایک سوال تک confine کریں گے، لیکن یہاں سے آپ نے آوازیں سنی ہیں۔ پیچھے جتنے بھی اراکین قومی اسمبلی جو پانی سے concern رکھتے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتی کہ Minister صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو figures ہیں they are not right. یہ پانی کا مسئلہ ہے اور it is a matter of survival for the people of Pakistan and particularly for the lower riparian. ہم آج سندھ اور بلوچستان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کہیں اور پانی کی قلت ہوتی تو ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے، لیکن آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کے بعد اس کی غلط justification نہیں دے سکتے۔

جناب سپیکر: سوال کیا ہے؟

شازیہ مری: سر! یہاں میرا سوال ہے کہ دیکھیں، پہلے تو ایک سوال ہے کہ telemetry system لگنا تھا۔ آپ یہاں پر بہت سارے numbers بتاتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ وہ system لگ چکا ہے؟ اس system کے بارے دعوے کیے، کیا وہ system لگا؟ نہیں لگا تو کیوں نہیں لگا؟ دوسرا، 1991 کے Water Accord کے تحت IRSA کا قیام آیا تھا and IRSA was an authority that was made to monitor the allegations in Para-(2) of that Accord. So, meetings یا فیصلے نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے تو یہ clear کر دیں۔ اور آپ جو بار بار یہ کہے جا رہے ہیں، on record اور off record، جب بار بار پانی ملا ہے، جب بار بار آتی ہیں تو آپ وہ allocation میں شامل کرتے ہیں۔ آپ وہ جو account for excess water of rainfall, that is not the allocated amount. Today, Sindh is suffering 39% of shortage of water. Sir, lower riparian ابدین والے بیٹھے ہیں۔

جناب سپیکر: سوال کیجئے، تقریر نہیں، سوال کیجئے۔

شازیہ مری: سر! یہ احساسات ہیں۔

جناب سپیکر: ہوں گے، ان سے میٹنگ کروادیں گے مگر I be brief بھی باقیوں نے بھی کرنے ہیں۔

شازیہ مری: ہم سوکھ رہے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کاشت کے لیے پانی نہیں ہے۔

جناب سپیکر: آپ سوال تو کیجیے۔

شاز یہ مری: میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ IRSA 1991 کے Water Accord کی allocation کے تحت پانی کیوں نہیں دیتا؟ Ministry نے telemetry system ابھی تک صحیح معنوں میں کھڑا کیوں نہیں کیا؟  
جناب سپیکر: تین سوال نہیں ایک ہوتا ہے۔ Minister صاحب۔

جناب محمد معین وٹو: سر! اس میں ایک تو میں یہ عرض کر دوں، جہاں تک telemetry system کا تعلق ہے تو وہ ان شاء اللہ 2027 تک مکمل ہو جائے گا، اور ابھی بھی بہت سارے مقامات پر اس کی installation جاری ہے۔ جہاں تک 1991 Accord کا تعلق ہے، یہ جو Advisory Council کا فیصلہ ہے یہ اسی کی روشنی میں ہوا ہے اور اس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اور اب بھی اس کو check کر لیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ IRSA یہاں اسمبلی میں غلط figures مہیا کرے؟ یہ بات غلط فہمی پر مبنی تو ہو سکتی ہے، لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ یہ جو IRSA نے لکھ کر بھیجا ہے، انہوں نے سیاق و سباق سے یہ facts and figures دیئے ہیں۔ یہ درست ہے اور اس میں اگر سندھ نے پانی زیادہ استعمال کیا ہے تو یہ سندھ والوں کو دوسرے صوبوں کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے۔ پنجاب میں minus seventeen ہو ہے اور سندھ میں plus ten percent زیادہ استعمال ہوا ہے۔

جناب سپیکر: آپ ایک meeting بلا لیجیے، اس کے بعد ان ممبران کو اپنے chamber میں بلا بھی لیجیے۔

جناب محمد معین وٹو: بالکل میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ان کیلئے یہ ممکن ہے تو تشریف لائیں، ہم بیٹھ کر اس کو sort out کر لیتے ہیں۔  
جناب سپیکر: شکریہ۔ ڈاکٹر مہیش کمار صاحب۔

ڈاکٹر مہیش کمار ملانی: شکریہ جناب سپیکر! پانی کا ایشو بہت important ہے۔ ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ پانی سندھ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے۔ وہاں سندھ میں پانی کی بہت shortage ہے اور IRSA 1991 Accord کے تحت پانی نہیں دے رہا۔ یہ ایک committee بنائی جائے جو ان کو Advisory Committee بتاتی ہے، وہ صحیح figures نہیں ہیں۔ جب بھی shortage ہوتی ہے تو shortage میں بھی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ link canal چل رہی ہے اور سندھ میں پانی نہیں مل رہا۔ وہاں کاشتکار بھی مسائل میں ہیں، پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا۔ میرا تھر پارکر کا علاقہ desert ہے۔ وہاں پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا۔ وہاں link canal چل رہی ہے ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو ان کو جو figures مل رہی ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ ایک committee بنائی جائے جو decide کرے۔

جناب سپیکر: یہ جنہوں نے Call Attention move کیا، یہی committee ہے، یہ ابھی بلا تے ہیں۔ آپ ان کو بلائیے، یہ

آپ کا جواب دیتے ہیں، ابھی بلا تے ہیں اور ابھی satisfy کرتے ہیں۔ وٹو صاحب۔

جناب محمد معین وٹو: جہاں تک میرے محترم دوست نے یہ فرمایا ہے کہ shortage of water ہے، وہ تو natural ہے۔ وہ shortage of water تمام صوبوں کے لیے ہے، صرف ایک صوبے کے لیے نہیں۔ جہاں تک بڑے اور چھوٹے بھائی کا تعلق ہے، تو پنجاب کو minus seventeen اور سندھ کو plus ten، تو یہ فرق تو وہاں نظر آ رہا ہے کہ سندھ کو پانی زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اگر اس کمیٹی میں جو جو صاحبان چاہیں۔۔۔

جناب سپیکر: میرے خیال ہے بات repeat ہوتی جا رہی ہے۔ I think what we need to do is، میں یہ نوابزادہ صاحب اور رفیع اللہ صاحب کا سوال لے لوں، اس کے بعد آپ اُن کو بلائیں، یہاں پہ meeting کرائیں، ابھی سارے Members یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ نوابزادہ میر جمال رئیسانی صاحب، سوال کیجئے۔

(مداخلت)

جناب سپیکر: ابھی ابھی، وہ یہ کر لیں، یہ دو Members اور ہیں، اس کے بعد آپ بلا لیجئے گا۔ نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی: سر! بہت شکریہ۔ بلوچستان پہلے ہی خشک سالی کا شکار ہے، اور صرف میں facts کے اوپر اگر بات کروں، سر! اگر Order in the House کریں۔

جناب سپیکر: Order in the House. Please تشریف رکھیں، آپ بات کیجئے۔

نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی: بلوچستان کے جو facts and figures ہیں، بلوچستان کو قانونی طور پر جو RSA کی allocation ہے اُس سے 70% کم پانی مل رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی reports کہہ رہی ہیں۔ باتیں تو بہت ہو گئیں۔ میرا وزیر موصوف سے سوال یہ ہے کہ کب تک بلوچستان کو اُس کا آئینی اور قانونی جو پانی کا حصہ بنتا ہے وہ ملے گا؟ اُس وقت تک ہمارے پاس ایسی کون سے ہنگامی strategies ہیں کہ ہم اس کو اپنا سکیں، تاکہ ہمارے farmers کو relief ملے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید ہم یہ سمجھیں کہ بلوچستان کو پانی کی جو منصفانہ تقسیم ہے، یہ ہے کہ بلوچستان کے کھیت تباہ ہو جائیں، بلوچستان کے farmers تباہ ہو جائیں، ہمارے جنازوں میں پانی میسر نہ ہو، ہمارے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہ ہو، ہم کیوں ہر وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ It's about greener Pakistan, not just greener provinces.

جناب سپیکر: وٹو صاحب، بات وہی بار بار ہو رہی ہے۔ آپ ایک بجے کا ٹائم رکھیں۔ کیا آپ کی ٹیم آجائے گی ایک بجے آپ کے دفتر میں، آپ کے چیئرمین؟

جناب محمد معین وٹو: جی جی، پہنچ جائے گی۔

جناب سپیکر: پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ یہاں پہ بلو لیں جی۔

جناب محمد معین وٹو: میں ابھی کہہ دیتا ہوں، ابھی آجائیں گے۔

جناب سپیکر: ابھی بلوایس جی۔ ان کا جواب دے دیجئے۔ تو پھر بلوایس جی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ممبر اگر جانا چاہے گا ضرور چلا جائے۔ جن کا

concern پانی کے ساتھ ہے۔

جناب محمد معین وٹو: جی جی۔ Sir. all the Members are welcome,

سر! جہاں تک بلوچستان province کا تعلق ہے تو IRSA نے جو رپورٹ دی ہے کہ IRSA is providing full indented supplies to Balochistan province. However, Sindh is not diverting the authorized supplies to Balochistan province. The canal position as on 10th June 2026 is as under... وہ میں پڑھ بھی سکتا ہوں۔

جناب سپیکر: مجھے سمجھ آگئی آپ جو بات کر رہے ہیں ممبران اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، this is not true۔ تو یہ meeting is essential، رفیع اللہ صاحب بات کر لیں، because ہم وہی بات بار بار repeat کر رہے ہیں۔ جو figures آپ دے رہے ہیں وہ نہیں agree کر رہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں، آپ نہیں agree کر رہے ان کے ساتھ۔ document دیں، اپنے department کو بتائیے گا کہ breach of privilege ہو جائے گا of this House اگر غلط کوئی figure تھی تو۔ رفیع اللہ صاحب، آپ سوال ایک کیجئے، چھوٹا سا، نہ کہ وہی بات repeat ہو پھر سے۔

سید رفیع اللہ: Thank you جناب سپیکر! میں repeat نہیں کروں گا کوئی بھی چیز جو آپ نے حکم فرمایا۔ سر! صرف یہ کہ اگر shortage ہے تو جو معاہدہ ہے، اس کے تحت Taunsa-Jhelum اور Panjnad Canal جو ہیں، وہ پھر نہیں چلیں گی۔ No.1، وہ کیسے چل رہی ہے shortage میں؟ Minister of Irrigation Sindh Jam Khan Shoro نے نشاندہی کی ہے۔ 39% shortage کی، وہ اس کے اوپر کیا action لیا ہے؟

سر! اہم بات یہ ہے۔ یہ پانی یہاں پر ہمیں دیں گے تو ہم کراچی کو دیں گے کراچی میں لوگ پیاسے ہیں۔

(مداخلت)

جناب سپیکر: No cross talk please. جی بات کریں۔

سید رفیع اللہ: سر! یہ نہ کہ کراچی کا کوئی مسئلہ حل ہونے دیں گے۔ ہمیشہ کراچی کے مسئلے کی بات کر دو تو یہ۔۔۔۔

جناب سپیکر: آپ سوال کیجئے ناں جی۔

سید رفیع اللہ: بھائی بات کرو لیکن آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہو، نہ کسی کو مسئلہ حل کرنے دیتے ہو؟ ہمیشہ کراچی کے نام پر negative

سیاست کرتے ہیں آپ اور ہمیشہ کراچی کے لوگوں کے۔۔۔

جناب سپیکر: جاوید صاحب please, no cross talk -

سید رفیع اللہ: سر! اگر اس طریقے سے ہاؤس چلے گا۔۔۔

جناب سپیکر: No cross talk.

سید رفیع اللہ: کراچی کے لوگوں کا خون انہوں نے بہایا ہے۔

جناب سپیکر: آپ کی جب باری آئے گی تقریر کیجئے گا۔

سید رفیع اللہ: کراچی کے خون سے پیاس بجھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ خدا کا واسطہ، بات کرنے دو۔

جناب ڈپٹی سپیکر: حفیظ صاحب، جاوید صاحب، یہ طریقہ نہیں ہے۔ رفیع اللہ صاحب کا مائیک بند کریں۔ حفیظ صاحب اور جاوید صاحب، جب

آپ کی باری آئے گی، Point of Order پر بات کیجئے گا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ رفیع اللہ صاحب، question کریں جلدی سے، brief کیجئے۔

Please۔ جو کر چکے، repeat نہ کیجئے۔

سید رفیع اللہ: نہیں کر رہا سر! میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سر، یہ دیکھیں، جب لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، سمندر میں ہمارے جو

mangroves ہیں، جب تک دریا کا میٹھا پانی نہیں آئے گا، اس وجہ سے لاکھوں ایکڑ زمین ہماری ضائع جا رہی ہیں۔ تو یہ کروڑوں لوگوں کے پانی کا

مسئلہ ہے، کراچی کا۔ یہ کروڑوں ہمارے mangroves کا، environment کا مسئلہ ہے۔ ہم اتنا پیسہ جو لوگ آ رہے ہیں۔۔۔

(مداخلت)

سید رفیع اللہ: تو اس لیے یہ ایک serious issue ہے، نہ کہ کسی صوبے کا۔ یہ پورے پاکستان کا issue ہے، کراچی کا issue ہے،

سندھ کا issue ہے، اور اسی طریقے سے بلوچستان، پنجاب، پنجتو نخوا کا۔ لیکن اس میں ہمیں management صحیح کرنی چاہیے۔ جو آپ نے

directions دیں، Rulings دیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ Need اس چیز کی ہے، کہ ہم Green Pakistan کی بات کریں،

green صوبے کی نہیں۔ green Pakistan ہو گا تو ہم سب خوشحال ہوں گے۔

جناب سپیکر: دو صاحب، میرا خیال ہے آپ کا جواب میں ہی دے دیتا ہوں۔

You have to sit together. Any other Member who wants to be part of this.

کتنے بچے کریں گے؟ میرا خیال ہے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ تب تک ہم اپنا یہ Business کرتے ہیں۔ Point of Order پر بلوچستان

کے سارے ممبران بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کریں گے۔ آپ مہربانی کر کے اپنے staff کو کہیں اور inform کریں۔ آپ کا Chamber number کیا ہے؟

جناب محمد معین وٹو: Meeting بلا لیتے ہیں۔

جناب سپیکر: کس جگہ بلائیں گے meeting؟

جناب محمد معین وٹو: یہ number ان کو پتا ہے جی، سارا ان کو پتا ہے جی۔

جناب سپیکر: Chamber number ان کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ آپ غلط بتا تو نہیں رہے کہیں Chamber number؟

اچھا جی۔

**THE PAKISTAN TELECOMMUNICATION (RE-ORGANIZATION) (AMENDMENT)  
BILL, 2025**

**Mr. Speaker:** Ms. Shaza Fatima Sahiba to move Item No.6.

**Minister for Information Technology and Telecommunication (Ms. Shaza Fatima Khawaja):** I, Minister for Information Technology and Telecommunication, to move that the Bill further to amend the Pakistan Telecommunication (Re-organization) Act, 1996 [The Pakistan Telecommunication (Re-organization) (Amendment) Bill, 2025], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

(اذان ظہر)

**Mr. Speaker:** Now, I put Motion to the House. It has been moved that the Bill further to amend the Pakistan Telecommunication (Re-organization) Act, 1996 [The Pakistan Telecommunication (Re-organization) (Amendment) Bill, 2025], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

(The Motion was adopted.)

**Mr. Speaker:** Clause by clause reading. The Bill is now taken up clause by clause.

**Mr. Speaker:** Clauses 2 & 3. Now I put clauses 2 & 3, to the House. The question is that clauses 2&3, do stand part of the Bill.

(The clauses 2 & 3 stand part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 3A. There is an amendment for insertion of clause 3A standing in the name of Ms. Huma Akhter Chughtai, MNA. Ms. Huma Sahiba to move the amendment.

**Ms. Huma Akhter Chughtai:** I, move that in the Pakistan Telecommunication (Re-Organization) (Amendment) Bill, 2026, as reported by the Standing Committee, after clause 3, the following new clause 3A, shall be inserted, namely. -

**“3A. Amendment of section 7A, Act XVII of 1996.-** in the said Act, in section 7A, in sub-section (7), clause (b) shall be omitted.

**Mr. Speaker:** Minister Sahiba, do you oppose it?

**Ms. Shaza Fatima Khawaja:** I do not oppose Sir.

**Mr. Chairperson:** Now, I put the amendment, as moved, by Ms. Huma Akhter Chughtai Sahiba to the House. The question is that the amendment, as moved, be adopted.

جناب سپیکر: شزئی صاحبہ آپ explain کیوں نہیں کر رہی ہیں۔ اسی لیے تو بلوایا ہے۔ Mover آپ explain کریں کہ یہ کیا

amendment تھی۔ ہما چغتائی صاحبہ، یہ کیا amendment تھی ذرا explain کیجیے، نوید صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں۔

محترمہ ہما چغتائی: سر اس میں جو ان کی amendment تھی کہ انہوں نے insert کیا ہے Section 3A۔ اور اس کی

obviously وجہ یہی ہے کہ. it is omitting clause 7B.

جناب سپیکر: یہ تو ہم بھی پڑھ لیں گے۔ میرا خیال ہے شزئی صاحبہ یہ جو amendment جس کو آپ oppose نہیں کر رہی ہیں، ذرا

اس کے features بتا دیجیے۔

محترمہ شزئی فاطمہ خواجہ: سر! یہ تمام جو amendments ہیں، ہماری PPP کے ساتھ endorse ہوئی amendments

ہیں، میں آپ کو briefly بتا دیتی ہوں پورے بل کا۔ اس میں مختصر آج پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے، اس کے جو rules ہیں ان کے اوپر باقاعدہ طور پر

بہت پرانا ایک issue چل رہا تھا، around their salaries، وہ اس بل کے through resolve ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ، اس میں جو

ہماری way of right کے حوالے سے honourable Prime Minister نے ایک بہت زیادہ revolutionary act کیا تھا

by removing the right of way charges، اس کو ہم legislation کے through جو ہے اس law کا حصہ بنا رہے ہیں

۔ تو یہ دو major چیزیں تھیں۔ اس کے بعد اس کے اندر challenge یہ تھا، میں بتا دیتی ہوں جس کے اوپر یہ والی amendment ہے۔

This particular amendment is about جو آپ کی Appellate Tribunal بن رہی ہے، اس کے اندر جو age of

the retirement of the Judge وہ contradictory ہو رہی تھی hiring کے ساتھ۔ 64 کی age لکھی ہوئی تھی کہ 64

سال کی عمر کے اوپر وہ جو جج ہیں وہ retire ہو جائیں گے، اس clause کو omit کیا گیا ہے کیونکہ induction کی age جو ہے وہ 60 above ہے۔ تو وہ clash جو ہے اس کو omit کیا گیا ہے جو میڈم ہمانے amendment پڑھی ہے، اس کی سر مختصراً یہ ایک summary ہے۔

اور تو سر میں آپ کو بتا رہی تھی، ایک سر! اس کے اندر PTA کے issues ہیں، دوسرا سر! Right of way کے issues ہیں۔

جناب سپیکر: اس amendment میں؟

محترمہ شری فاطمہ خواجہ: نہیں Sir overall۔

جناب سپیکر: نہیں overall نہیں۔ باقی تو پتہ ہے سب کو، وہ ہم باقی اس پہ آئیں گے۔ جی ہا صاحبہ آپ کو سمجھ آگئی؟

**Mr. Speaker:** Now, I put the amendment, as moved, to the House. The question is that the amendment, as moved, be adopted.

(The amendment was adopted and clause 3A stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clauses 4 to 5. Now, I put clauses 4 to 5, to the House. The question is that clauses 4 to 5, do stand part of the Bill.

(The clauses 4 to 5 stand part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 6. There is an amendment in clause 6, standing in the name of Syed Naveed Qamar Sahib. Kindly move your amendment. ذرا ہمیں اس کے ذرا salient features میں بتائیے گا۔

**Syed Naveed Qamar:** I move that in the Pakistan Telecommunication (Re-Organization) (Amendment) Bill, 2026, as reported by the Standing Committee, in clause 6, in the proposed section 27A. -

(i) in sub-section (4), for the proviso the following shall be substituted, namely: -

“Provided that while executing any works under this section, the licensee shall endeavor to avoid crossing a permanent building and in the event of any dispute arising between the owner, lessee, or tenant and the licensee under section 27A, regarding the repair and maintenance of such works or the restoration of the affected area to its original condition in accordance with the specifications and standards mutually agreed upon by the respective owner, lessee, or tenant, such dispute shall be referred to the appropriate government for Resolution and

settlement within a maximum period of forty five days from the date of receipt of the complaint.”: and

In the proposed section 27B, in sub-section (1), for the expression “as may be determined by the Federal Government through a Gazette notification”, the expression “up to fifty million rupees”, shall be substituted.

جناب سپیکر: I think بڑے detail میں نوید صاحب نے بتایا۔ نوید صاحب کا mike کھولیں۔

سید نوید قمر: سر! جو بل آرہا ہے، جو IT honourable Minister for لائی ہیں، وہ basically پاکستان میں internet connectivity اور particularly optical fiber lay کرنے کا جو programme ہے۔ وہ بہت اچھی بات ہے the world has moved on and Pakistan also needs to catch up with the world. ہم appreciate کرتے ہیں۔ however لیکن مسئلہ آتا ہے on the ground جہاں کوئی dispute arise ہوتا ہے کہ لوگوں کی جائیداد ہے۔

اب in the name of a very good thing, we can't trample upon the rights of the people. اگر کسی کی کوئی زمین ہے یا کسی کا کوئی گھر ہے یا کوئی building ہے اور اگر آپ کھڑے ہو گئے کہ جی مجھے تو اس میں سے گزرنا ہے کیونکہ یہی میرے لیے shortest راستہ ہے، تو ظاہر ہے کہ dispute arise ہوگا، ان کو بھی delay کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اس میں ڈالا ہے۔ appropriate government. کیونکہ mostly issues provincial governments کے ہوتے ہیں۔ یا کہیں کہیں local governments کے بھی۔ Federal Government تو involve ہوتی ہے اگر federal areas ہوں، اسلام آباد ہو وغیرہ، اس وجہ سے۔ تو اس کے لیے appropriate government for example اگر مقامی ڈپٹی کمشنر ہوا۔ whoever is designated تو وہ دونوں پارٹیوں کو بلا کر ان کی بات سننے گا اور اس پر کوئی فیصلہ دے گا۔

اور دوسرا بھی جو اس پر penalties or compensations وغیرہ ہیں، تو وہ arbitrary نہیں ہونی چاہئے، اس کے لیے اس کی limit fix کی جا رہی ہے۔

جناب سپیکر: جی Minister صاحبہ آپ اس کو oppose کرتی ہیں؟

محترمہ شرمیٰ فاطمہ خواجہ: نہیں۔ Sir! It is a good amendment۔ شکر یہ۔

**Mr. Speaker:** Now, I put the amendment, as moved by Syed Naveed Qamar Sahib to the House. The question is that the amendment, as moved, be adopted. (The amendment was adopted.)

**Mr. Speaker:** Now, I put clause 6, as amended, to the House. The question is that clause 6, as amended, do stand part of the Bill.

(The clause 6, as amended, stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 7. There is an amendment in clause 7, standing in the name of Syed Naveed Qamar Sahib. Kindly move your amendment.

**Syed Naveed Qamar:** I move that in the Pakistan Telecommunication (Re-Organization) (Amendment) Bill, 2026, as reported by the Standing Committee, in clause 7, in the proposed paragraph (a), in the proposed sub-section (2).-

- (i) in the proviso, after the expression, “video-link” occurring at the end, the expression, “and the Chairman of the Board of Directors shall in case of an equal number of votes, have a casting vote”, shall be inserted;
- (ii) after paragraph (a), the following new paragraphs (b) and (c) shall be inserted and the remaining paragraphs shall be renumbered, accordingly;-

“(b) in sub-section (3), for the full stop at the end a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely: -

“Provided that in addition to the license granted under sub-section (3), the National Telecommunication Corporation is authorized to provide information communication technology related service to all organizations of the Federal Government and Provincial Government or such other Governmental agencies or Governmental institutions as the Federal Government may determine from time to time.”; and

(c) in sub-section (4), in paragraph (e), for the expression, “Federal Government”, the expression, “a Committee appointed by the Board of Directors of the National Telecommunication Corporation” shall be substituted;”:and

- (iii) for renumbered paragraph (g), the following shall be substituted, namely: -

“(g) for sub-section (16), the following shall be substituted, namely:-

“(16) The National Telecommunication Corporation may, in addition to the audit by the Auditor-General, cause its accounts to be audited by internal or

other external auditors who shall report directly to the Board of Directors of the National Telecommunication Corporation.”.

**Mr. Speaker:** Minister Sahiba, do you oppose it?

محترمہ شہزادی فاطمہ خواجہ: نہیں سر۔

**Mr. Speaker:** Now, I put the amendment, as moved by Syed Naveed Qamar Sahib to the House. The question is that the amendment, as moved, be adopted.

(The amendment was adopted.)

**Mr. Speaker:** Now, I put clause 7, as amended, to the House. The question is that clause 7, as amended, do stand part of the Bill.

(The clause 7, as amended, stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 8. There is an amendment in clause 8, standing in the name of Syed Naveed Qamar Sahib. Kindly move your amendment.

(مداخلت)

جناب سپیکر: یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد quorum ہو۔ یہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ نوید قمر صاحب چلیں۔

**Syed Naveed Qamar:** I, move that in the Pakistan Telecommunication (Re-Organization) (Amendment) Bill, 2026, as reported by the Standing Committee, in clause 8, in proposed section 41A, in sub-section (1), for paragraph (a), the following shall be substituted, namely: -

“(a) a Ph.D. in Telecommunication, Electrical, Electronic, ICT, or Computer System Engineering, Engineering Management or relevant engineering discipline from the Higher Education Commission (HEC) recognized Institution or University, or a foreign well-reputed and recognized University, with at least nine years of professional experience in the relevant field or a Master’s degree in Telecommunication, Electrical, Electronic, ICT, or Computer System Engineering, Engineering Management or a relevant engineering discipline from the HEC-recognized University, or a foreign well-reputed and recognized University, with at least twelve years of professional experience in the relevant field.”.

**Mr. Speaker:** Minister Sahiba do you oppose it?

**Ms. Shaza Fatima Khawaja:** Not opposed.

**Mr. Speaker:** Now, I put the amendment as moved by Syed Naveed Qamar to the House. The question is that the amendment, as moved, be adopted.

(The amendment was adopted.)

**Mr. Speaker:** Clause 8. Now, I put clause 8 as amended, to the House. The question is that the clause 8, as amended, stand part of the Bill.

(The clause 8 stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clauses 9 and 10. Now, I put clauses 9 to 10 to the House. The question is that clauses 9 to 10, do stand part of the Bill.

(The clauses 9 to 10 stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 1, Preamble and Short Title. Now, I put clause 1, Preamble and Short Title to the House. The question is that clause 1, Preamble and Short Title, do stand part of the Bill.

(The clause 1, Preamble and Short Title stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Item No. 07. Shaza Fatima Khawaja Sahiba to move Item No. 07.

**Ms. Shaza Fatima Khawaja:** I, move that the Bill further to amend the Pakistan Telecommunication (Re-organization) Act, 1996 [The Pakistan Telecommunication (Re-organization) (Amendment) Bill, 2025], be passed.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the Bill further to amend the Pakistan Telecommunication (Re-organization) Act, 1996 [The Pakistan Telecommunication (Re-organization) (Amendment) Bill, 2025], be passed.

(The Motion was adopted and the Bill was passed.)

**CALLING ATTENTION NOTICE REG: TERMINATION AND THE UNDUE DELAYS, SLOW PACE OF EXECUTIVES, AND INEFFICIENCIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE LOHI BHAIR SAFARI PARK PROJECT, 10TH AVENUE PROJECT AND OTHER DEVELOPMENT PROJECTS IN ISLAMABAD BY THE CAPITAL DEVELOPMENT AUTHORITY (CDA)**

جناب سپیکر: کالنگ اٹینشن نوٹس، عالیہ کامران صاحبہ، آئٹم نمبر 12 پیش کریں۔

(مداخلت)

جناب سپیکر: یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد quorum point out کریں، اس کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔  
محترمہ عالیہ کامران: میں وزیر برائے داخلہ انسداد منشیات کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلانا چاہتی ہوں جو Capital Development Authority کی جانب سے اسلام آباد میں لوئی بھیر، سفاری پارک منصوبہ، 10<sup>th</sup> Avenue منصوبہ اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی منسوخی اور ان پر عمل درآمد میں بلا جواز تاخیر، انتظامیہ کی سست روی اور ناقص کارکردگی سے متعلق ہے۔

جناب سپیکر: طلال چوہدری صاحب، to make a brief statement۔

وزیر مملکت برائے داخلہ و انسداد منشیات (سینیٹر طلال چوہدری): سر! گزارش یہ ہے کہ 10<sup>th</sup> Avenue کا پروجیکٹ 2021-22 میں شروع کیا گیا۔ اس کے لیے جو PSDP میں پیسے رکھے گئے، وہ 12 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا۔ اس کے 2 portions تھے اور دو portions میں overhead bridge اور ایک double سڑک 10<sup>th</sup> Avenue کے لیے بنائی گئی، جو IJP Road سے Srinagar Highway تک آنی تھی۔ سر! جو اس کا پہلا portion ہے، اس میں تو کافی کام ہوا۔ اس وقت اس پہ physical progress 47 percent ہے، لیکن PSDP میں پچھلے سال کوئی پیسے ہمیں نہیں ملے۔ PSDP میں جب تک اس کا fund allocate نہیں ہوگا، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سر! ایک تو PSDP fund کا issue ہے۔ دوسرا ایک issue یہاں پر ایک encroachment کا ہے۔ ایک بہت بڑی encroachment رمشا کالونی ہے، جس میں بہت play up کیا جاتا ہے اور normally بہت ساری اس میں کبھی Human Rights کے نام پر، کبھی NGOs کے نام پر۔ وہ تمام NGOs جو اپنے ملکوں میں سمجھتی ہیں کہ rule of law ہونا چاہیے، لیکن یہاں encroachers کو human rights کے نام پر۔ سر! یہ کالونی تقریباً ایک کلو میٹر پر محیط ہے اور یہ encroached ہے۔ یہ کوئی declared کچی آبادی نہیں ہے۔ دوسرا PSDP issue کے پیسے نہ ہونا ہے۔ یہ اسلام آباد کے Minister اور باقی لوگ بیٹھے ہیں، یہ اگر تھوڑا سا زور لگوائیں Prime Minister سے کوئی ہمیں پیسے لے کے دے تو ہم اگلا اس کا phase کر کے دے دیں۔

جناب سپیکر: عالیہ کامران صاحبہ، ایک سوال کیجیے۔

محترمہ عالیہ کامران: محترم Minister صاحب صحیح بتا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملات اس سے پہلے بھی Assembly میں اٹھائے جاتے رہے ہیں، لیکن جو بات ground reality سے مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو admit کر لیا، لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے، مطلب سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر ground reality دیکھیں تو سب مختلف ہیں۔ محترم Minister صاحب نے خود بتا دیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سفاری پارک سے جو لوئی بھیر کا تھا، وہ میں نے بتایا کہ پہلے بن چکا ہوا ہے اور ایک نیا سفاری پارک بنانے جا رہے ہیں۔ سی

ڈی اے جو پہلے ہی معاملات پر دھیان نہیں دے سکتا تو کیسے ہم نئے کی طرف جارہے ہیں؟ سر! G/10 Women Bazar بنایا گیا تھا اور اس پر 6 کروڑ خرچ کر دیے گئے اور 6 کروڑ خرچ کرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے۔۔۔

جناب سپیکر: سوال کیجئے، Please be to the point۔

محترمہ عالیہ کامران: سر! یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ختم کر دیے گئے ہیں یا تاخیر کا شکار ہیں۔ میرا اس Calling Attention کو دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو CDA کے جو معاملات ہیں اور ان کی planning کو highlight کرنا ہے۔ میں سوال کرتی ہوں کہ جو پروجیکٹس اپنی timeline سے پیچھے ہیں، ان کی جلد از جلد تکمیل کے لیے CDA کیا اقدامات کر رہا ہے اور CDA اپنی poor planning کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟

جناب سپیکر: طلال چوہدری صاحب۔

سینیٹر طلال چوہدری: جناب سپیکر! لوئی بھیر پروجیکٹ Forest Department کی land ہے، یہ پنجاب کا پروجیکٹ ہے اور وہی اس کو کر رہے ہیں۔ اس میں CDA کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارا جو سفاری پارک ہے، ہم نے اس کا consultant hire کیا ہے۔ ہم اس کو پلور میں کریں گے۔ اس کا consultant hire ہو گیا، اس کی topography، feasibility اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمارا صرف سفاری کا ایک ہی پارک ہے۔ اس کے علاوہ لوئی بھیر کا میں نے بتا دیا، پنجاب کر رہا ہے، وہ اس کی جگہ ہے۔ سر! جو ہمارے پروجیکٹ اس حکومت میں شروع ہوئے ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ ہم time سے پہلے complete کرتے ہیں۔ ایک تو complete project funded لے کر آتے ہیں۔ یہ PTI کے دور میں شروع ہوا تھا 10<sup>th</sup> Avenue۔ اس کو جب آپ poorly design کریں گے، encroachers کو فارغ نہیں کریں گے، پیسے رکھیں گے نہیں اور project شروع کروادیں گے تو یہی حال ہوگا۔ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی project ایسا نہیں ہے جو funded نہ ہو، time پہلے complete نہ ہو، بلکہ time سے پہلے cost اور اور کو الٹی میں complete نہ ہو۔ ہم سب سے پہلے یہی خیال کرتے ہیں۔

(مداخلت)

جناب سپیکر: مائیک کھولیں۔ کردار کی بات نہ کریں۔ آپ نے quorum point out کرنا ہے تو کریں۔ میرے کسی بیٹے نے

Political asylum نہیں لیا۔

### POINTING OUT THE LACK OF QUORUM

جناب محمد اقبال خان: میں ایک گھنٹے سے احتجاج کر رہا ہوں۔ کورم پورا نہیں ہے۔

Mr. Speaker: Count be made.

(The count was made.)

**Mr. Speaker:** The House is in order.

**CALLING ATTENTION NOTICE REG: TERMINATION AND THE UNDUE DELAYS, SLOW PACE OF EXECUTIVES, AND INEFFICIENCIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE LOHI BHAIR SAFARI PARK PROJECT, 10TH AVENUE PROJECT, AND OTHER DEVELOPMENT PROJECTS IN ISLAMABAD BY THE CAPITAL DEVELOPMENT AUTHORITY (CDA)**

جناب سپیکر: غفور حیدری صاحب، موجود نہیں۔ عثمان بادی صاحب، موجود نہیں۔ نعیمہ کشور خان صاحبہ، موجود نہیں۔ محترمہ شاہدہ بیگم۔ محترمہ شاہدہ بیگم: شکریہ، جناب سپیکر صاحب! CDA کا پراجیکٹ پارک روڈ اسلام آباد میں ہے۔ اس پر recently billion of rupees کا خرچہ آیا ہے estimate کے مطابق اور ابھی جیسے ہی روڈ ٹریفک کے لیے کھولی گئی ہے، چند ہی مہینے کے بعد ایک joint venture CDA, FWO, Margalla Enclave سے ایک under pass کی تعمیر شروع ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا project ہے جو تیزی سے جاری ہے۔ لیکن میری اس میں خاص گزارش یہ ہے کہ جب اس طرح کے huge projects شروع کیے جاتے ہیں تو ٹریفک کے لیے diversions بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس دوران وہاں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن متبادل roads debilitated conditions اور اکثر خراب رہتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہوتا۔ میری وزیر صاحب سے درخواست ہے کہ جب بھی اتنے بڑے projects ہوں تو کم از کم diversion roads کی حالت پر بھی غور کیا جائے تاکہ جن لوگوں کا روزانہ وہاں سے گزر ہوتا ہے، ان کو بھی relief مل سکے۔ خاص طور پر Joint venture Park Road کے حوالے سے diversion road پر توجہ دی جائے تاکہ عوام کو سہولت مل سکے۔

جناب سپیکر: طلال چوہدری صاحب۔

سینیٹر طلال چوہدری: سر! گزارش یہ ہے کہ یہ project جو ہے اس کی funding بھی خود یہ joint venture کر رہا ہے، اس میں CDA کا کوئی پیسہ شامل نہیں ہے۔ CDA کی صرف collaboration ضرور ہے۔

یہ Zone-IV کا علاقہ ہے جہاں تقریباً اسلام آباد کی ایک تہائی آبادی رہتی ہے، جس میں پرانا اسلام آباد اور بہت سی نئی بڑی آبادیاں شامل ہیں۔ اس پورے علاقے کے لیے ایک مکمل remodel کی جا رہی ہے جس میں under pass بھی شامل ہے overhead بھی ہے، یہ project مارچ میں شروع ہوا تھا اور اپنی timelines کے مطابق اگست میں مکمل ہوگا۔ اس کا پہلا حصہ یعنی underpass جولائی میں مکمل ہوگا، جبکہ باقی کام اگست تک مکمل ہو جائے گا۔ Diversions بنی ہوئی ہیں، وہاں پر proper نشانات اور ہماری ٹریفک پولیس بھی تعینات ہے۔ میں خود بھی اس کا دورہ کر چکا ہوں اور صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں یقیناً کچھ تکلیف ہے، خاص طور پر roads کے حوالے سے، جب اتنا بڑا

project چل رہا ہو تو یقیناً face کرنا پڑتی ہے۔ اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ منصوبہ انہی لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس سے ان کا سفر کا وقت تقریباً آدھا گھنٹہ کم ہو جائے گا اور اس علاقے کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ وقتی تکلیف ہے اور یہ منصوبہ انشاء اللہ وقت پر مکمل ہوگا۔ شکر یہ۔

### POINTS OF ORDER

جناب سپیکر: نکہت تشکیل صاحبہ on Point of Order.

ڈاکٹر نکہت شکیل خان: سر! میں کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی، بہت شکر یہ۔ میں ایک معاملہ اٹھانا چاہتی تھی اور on Point of Privilege پر آپ سے Ruling چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے دوست احباب ہمارے ملنے ملانے والے، ہمارا بہت مذاق اڑاتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ کب National Assembly سے ملنے والی سہولیات کا فائدہ اٹھائیں گے اور کب آپ لوگ یہ جو blue passports ہیں ان پر اپنے بچوں کو بھگوڑا بنادیں گے۔ سر! میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کیا کروں؟ آپ سے میں اس پر Ruling چاہتی ہوں اور ہمیں بہت شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے جو ہمیں facilities ملتی ہیں، ہم اس کو غلط انداز سے avail کریں تو کیا FIR میں اپنے محلے والوں کے خلاف کٹواؤں جو اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں یا ایسے لوگوں کے خلاف جن کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔

جناب سپیکر: کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟

ڈاکٹر نکہت شکیل خان: آفریدی صاحب کی بات کر رہی ہوں جو ہر وقت کھڑے ہو کر quorum point out کر دیتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کے problems کی بات کرتے ہیں کہ ان کے address نہیں کیے جاتے، جب Question Hour ہوتا ہے وہ لوگوں کے problems کو ہی address کیا جاتا ہے تو اس پر یہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔

جناب سپیکر: آپ لوگ move کیجئے گا Motion, suspend کر دیں گے ایسے لوگوں کو، دیکھیں پارلیمنٹ کی روایات سب انہوں نے ختم کر دی ہیں آفریدی صاحب نے، جو روایات ہوتی تھی بجٹ کی تقریر میں یہ quorum point out کر دیتے ہیں۔ لوگ محنت کر کے آتے ہیں، ادھر سے بھی محنت کرتے ہیں، ممبران کو سوال نہیں پوچھنے دیتے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، بجٹ کے بعد میں نے ایک بات clear کر دی ہے، بجٹ کے دوران جو جماعت، ہم نے چالیس گھنٹے دینے ہیں debate کے، جو جماعت quorum point out کرے گی اس کا اتنا time کٹ جائے گا۔ I am very clear میں ایک منٹ آگے نہیں دوں گا اور آپ suspension move کریں میں suspend کرتا ہوں۔ آپ لوگ کیوں نہیں suspension move کرتے، ووٹ بھی ڈال دیں گے۔ شکر یہ۔ طلال چوہدری صاحب۔

سینیٹر طلال چوہدری: سر! گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑی privilege اس House کی بنتی ہے کہ اس House کے Member ہوتے ہوئے کوئی اپنے blue passport اور اس کے perks and privilege کو غلط استعمال کرے۔ سر! موصوف کے بیٹے نے پاکستان کے لیے ایک embarrassment create کی ہے پوری دنیا میں، یہ شرمندگی Foreign Ministry سے لیکر

پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ سر! اس موصوف کے بیٹے نے blue passport بنوا کر ایک ایسے ملک یورپ میں travel کیا، جہاں travel visa free تھا اور وہاں سے ان کا بیٹا اٹلی گیا، اٹلی جا کر انہوں نے political asylum اور جس passport کی یہ کہتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں، اس passport کو انہوں نے surrender کیا۔

سر! کیا یہ privilege اس House کی نہیں ہے کہ غلط طور پر یہ چیزیں استعمال کرنا اور اس کے بعد یہاں آکر بھاشن دیتے ہیں کہ ہم بڑے اصول والے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا quorum زیادہ ضروری ہے یا اس طرح کی ذمہ داری کہ آپ کو ایک اختیار، آپ کو ایک privilege دیا گیا ہے آپ اس کا غلط استعمال کریں۔ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اس privilege کا غلط استعمال انہوں نے کیوں کیا اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ Custodian ہیں۔ اس چیز کا نوٹس لیکر اس کو آپ نے کمیٹی میں بھیجنا ہے، یا اس کو full House میں رکھنا ہے، اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ صرف بدنامی پاکستان کے لیے نہیں یہ ہمارے 99% honourable Members جو کہ صحیح استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بدنامی کا باعث بنا۔

جناب سپیکر: میں Interior کی کمیٹی کو refer کر رہا ہوں یہ issue جو ہے، جو misuse of Pakistani passport ہے یہ refer کر رہا ہوں۔ دوسری چیز انہوں نے ہاتھ اٹھایا ان لوگوں کے اوپر جو جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے گیٹ نمبروں پر جو باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں main entry پ، میں نے ان سے معذرت کی، انہوں نے ہمارا staff جو یہاں پر ہے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا میں نے معذرت کی۔ سیرینا چوک میں انہوں نے ایک سپاہی کے اوپر ہاتھ اٹھایا میں نے معذرت کی، اب کوئی معذرت نہیں ہوگی۔ ایک ہی Member جو سارے Members کی بدنامی کرنا چاہتا ہے۔ This is not acceptable آپ Motion move کریں گے میں suspension کا کروں گا۔ فرح ناز صاحبہ۔

### MOTION REG: SUSPENSION OF MR. MUHAMMAD IQBAL KHAN, MNA FOR THE REMAINDER OF THE SESSION

**Ms. Farah Naz Akbar:** Thank you Mr. Speaker! During the proceedings of the National Assembly on 3<sup>rd</sup> April, 2026, Mr. Muhammad Iqbal Khan, MNA, NA- 27 was observed using abusive language towards Director General, Media of the National Assembly Secretariat and issuing threats. On multiple occasions, he has also misbehaved with Police and security personnel deployed for security duties within the Secretariat as well as with the Chair.

Furthermore, on 13<sup>th</sup> May, 2026, he undermined the authority of the Chair and lowered the dignity of the Parliament by using abusive and threatening language against fellow Members, thereby disrupting the decorum and discipline

of the House. His conduct is unbecoming of the Parliamentarian as he has repeatedly violated the sanctity of the House, disregarded the authority of the Chair and willfully obstructed the proceedings and contravention of the Rules.

In view of the above, I hereby name him under rule 21 of Rule of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007. Now, I put the question to the House, whether Mr. Muhammad Iqbal Khan, MNA, should be suspended from the service of the Assembly for the remainder of the Session.

جناب سپیکر: جو suspension ہوگی وہ for the entire Session ہوگی، he will not get any allowances, we will make sure, we'll go by the book.

Now, I put the question to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

#### POINTS OF ORDER

جناب سپیکر: جمال رئیسانی صاحب Point of Order. Please Sergeant-at-Arms ان کو escort کریں out، گوہر صاحب enough is enough، abusive language یہ سارا کچھ، this is not acceptable آپ لوگوں نے abusive language استعمال کی اور میرے staff کے اوپر physical assault کیا ہے، ایک دفعہ نہیں تین دفعہ کیا ہے، آپ کس چیز کو defend کر رہے ہیں I am not going to give you the Floor جو lowest grade کے لوگ ہیں وہ بول نہیں سکتے ان کے سامنے تو یہ MNA بننے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو سپاہی سرینا میں کھڑا تھا، جو سپاہی وہاں گیٹ نمبر ون پر کھڑے تھے، کیا یہ وہاں ہو سکتا ہے؟ جی جمال صاحب بات کریں۔

نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی: سر! بہت شکریہ جناب سپیکر کہ آپ نے ٹائم دیا۔ میں بلوچستان کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج انتہائی واضح طور پر اور دو ٹوک انداز میں جو حال ہی میں ایک جلسے میں موصوف نے بعض بیانات دیے ہیں ان پر میں اپنا رد عمل دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایسے بیانات جن میں ریاست کی writ کو challenge کیا جائے، جن میں اپنی ایک علیحدہ فورس بنانے کی بات کی جائے، جن میں سرحدی نظام کے خلاف اشتعال پھیلانے کی بات کی جائے، جن میں بلوچوں اور پٹھانوں کو لڑانے کی سازش کی جائے اور سب سے اوپر عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف کرنے کی بات کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری یا آئینی معاشرے میں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جناب سپیکر! میں۔۔۔۔

جناب سپیکر: ایک سیکنڈ، جمال صاحب۔ اقبال صاحب اگر آپ باہر نہیں گئے تو آپ کو by force یہ لے کے جائیں گے۔ اگر اپنی عزت پیاری ہے تو please walk out، آپ نکل جائیں، آپ کی عزت اسی میں ہے۔ جی، جمال صاحب۔

نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی: شکریہ جی۔ جناب سپیکر! میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کوئی وقتی اتحاد نہیں بلکہ ایک آئینی ریاست ہے۔ ایک ایسی ریاست جو کہ لاکھوں شہداء اور غازیوں چاہے وہ security forces یا civilian ہوں ان کے لہو کی بدولت قائم ہے۔ یہ کسی ایک قوم، قبیلے یا علاقے کی ملکیت نہیں، بلکہ یہ ایک federation ہے۔ ایک ایسی federation جہاں تمام اقوام چاہے بلوچ ہوں، براہوی ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، سرائیکی ہوں، ہزارہ ہوں، پنجابی ہوں، جتنی بھی اقوام ہیں سب اس میں برابری کی بنیاد پر شریک ہیں۔

سیاست کرنا آپ کا جمہوری حق ہے، بھلے کریں، اس سے ہم نہیں روکتے۔ لیکن سیاست آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کی جاسکتی ہے۔

آج اس august House میں ہم جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں واضح طور پر یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی علیحدگی پسند سوچ، متبادل فورس بنانے کا تصور یا سرحدی نظام کو کمزور کرنے کی بات بالکل بھی سیاسی بیانات نہیں ہو سکتے بلکہ یہ براہ راست ریاست کی writ کو challenge کرنا ہے۔

جناب سپیکر! یہ بیانات ہمارے نوجوانوں کو confuse کرتے ہیں اور یہ ہمارے ملک کے امن و امان کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہیں اور یہ بیانات ایک ایسے شخص کے منہ سے سنے گئے ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہم نے سیاست سیکھی ہے۔ جس کو ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے تھے کہ شاید وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرے گا۔ لیکن افسوس کہ وہ ریاست کے خلاف اور نفرت پھیلانے والی باتیں کر رہا ہے۔

جناب سپیکر! چین اور سرحدی علاقوں کے جو مسئلے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور وہ حقیقی ہیں۔ ان کے خواہ تجارتی مسئلے ہوں یا معاشی مسئلے ہوں۔ لیکن ان مسئلوں کا حل صرف اور صرف ریاست کے ساتھ وفادار رہ کر، پالیسی اور مذاکرات سے ہی نکل سکتا ہے نہ کہ جذباتی نعروں اور ریاستی اداروں کے خلاف مجاذ آرائی سے۔

جناب سپیکر! یہ بھی موصوف نے کہا کہ ہم سرحدی boundaries ختم کر دیں گے یا ریاستی فیصلوں کو ہم طاقت کے ذریعے تبدیل کر دیں گے۔ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ سوچ ہے۔ ہماری افواج نے ہمیشہ اپنی سرحدوں کو قومی سلامتی، دہشتگردی کے خاتمے اور smuggling کی روک تھام کے لیے منظم کیا ہے اور شاید اب جدھر بھی جائیں کسی بھی ملک، کسی بھی دنیا کے کونے میں تو ہر ذمہ دار ریاست یہی کرتی ہے، جناب سپیکر۔

جناب سپیکر! یہ بھی کہا موصوف نے کہ بلوچستان بلوچوں کو تحفے میں ملا ہے۔

جناب سپیکر! ہم تحفے وصول کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ ریاست بلوچ، براہوی، پٹھان اور ہمارے عوام کی جدوجہد اور قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔

جناب سپیکر! بلوچستان کسی شخص، خاندان یا سیاسی گھرانے کی میراث نہیں، یہ سب کا بلوچستان ہے، یہ بلوچوں کا بلوچستان ہے، یہ پٹھانوں کا بلوچستان ہے اور ہر قوم اپنی تاریخ، اپنی شناخت، اپنے حقوق کے ساتھ اسی بلوچستان میں برابری کی شریک ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان ہمارے ساتھ ہے۔ بلوچستان کے عوام نے ہر مشکل وقت میں ملک کی ترقی، امن اور فلاح کے لیے قربانی دی ہے۔ ہم کسی کو یہ قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوچستان کے نام پہ عوام کو ریاست کے خلاف کرے یا نوجوانوں کو انتشار اور تقسیم کی سیاست کی طرف دھکیلے۔

بے شک اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کو زیادہ توجہ اور زیادہ حقوق، ترقی کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی بے روزگاری کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب ہم پاکستان اور ریاست کو مضبوط کریں گے۔

یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں جناب سپیکر! کہ یہ پارلیمان، یہ ہماری security forces اور judiciary اس ریاست کے آئینی ستون ہیں۔ ان کے خلاف عدم اعتماد پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ متبادل ڈھانچوں کو فروغ دینا، صرف اور صرف ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کے بھلے 100 اختلافات ہوں، اختلافات بھی جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اختلافات آئینی حدود تجاوز کر جائیں تو وہ نفرت اور انتشار کو جنم دیتے ہیں، جناب سپیکر۔

آخر میں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی نفرت یا تقسیم یا علیحدگی پسند سوچ کا متحمل کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایک مضبوط، متحد اور آئینی پاکستان دینا ہو گا، نہ کہ انہیں ایسے راستوں پر ہم دھکیلیں جو کہ کمزوری اور نفرت کا سبب بنیں۔ پاکستان کے دشمن ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم آپس میں لڑے۔ لیکن باشعور قومیں ایسے بیانات کو مسترد کرتی ہیں۔ اور اس august House سے ہمیں ایک پیغام دینا ہو گا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ریاست کو دباؤ، اشتعال یا جاذباتی نعروں سے کمزور یا blackmail کرے گا تو وہ اس کی خام خیالی ہے۔ پاکستان کل بھی مضبوط تھا، آج بھی مضبوط ہے اور تاقیامت مضبوط رہے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، آئین پاکستان پائندہ باد۔

جناب سپیکر: ان شاء اللہ۔ ریسمانی صاحب جو آپ نے بات کی ہے، یہ تو بہت ہی تشویش ناک ہے کہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں مجھے ان کا اتنا علم نہیں ہے۔ مگر یہ تو پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کا کوئی بھی محب وطن شہری کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جو بات آپ نے بتائی ہے۔ تو یہ جس نے بھی کی ہیں میں تو سوچتا ہوں کہ وہ شاید پاکستانی ہی نہیں ہے اور یہ مجھے علیحدگی میں بتا دیجئے گا جس کے متعلق یہ باتیں کی ہیں۔ افسوسناک اور شرمناک یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے پاکستان میں بلوچ اور پشتون میں دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پھر اگر افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو جا کے افغانستان کے ساتھ وہ جو بھی موصوف ہیں کھڑے ہوں پھر پاکستان کی شہریت ہے یا ان کی افغانی، یہ بھی مجھے ذرا بتائیے گا۔ مگر افسوس ہے بلکہ غصہ بھی ہے اس طرح کی statements پر۔ اس میں جو بھی ہے اس نے آزمانا ہے تو ضرور آزمائے، مگر میرا خیال ہے پاکستان کا یہ کم از کم پارلیمنٹ اس کی اجازت نہیں دے گی اور نہ ہی ریاست پاکستان دے گی اور نہ ہی کوئی محب وطن پاکستانی اس چیز کی اجازت دے گا۔ جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب۔ آپ کو بھی دیتا ہوں۔

جناب طارق فضل چوہدری: بہت شکریہ honourable Speaker Sahib بہت مختصر انداز میں دو تین نکات پہ بات کرنا بہت

ضروری ہے۔

سب سے پہلے تو سر! آج ایک Member کی جو رکنیت ہے وہ rest of the Session کے لیے معطل کی ہے آپ نے، اس کے لیے پورا ایوان آپ کا شکر گزار ہے چونکہ یہ Budget session ہے اور اس کے علاوہ بھی جس طرح بار بار اجلاس میں تعطل پیدا کیا جاتا ہے یعنی اس کی کارروائی میں ایک جماعت اور بالخصوص ایک ممبر کی طرف سے، اور پورے House کو blackmail کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غیر پارلیمانی الفاظ یہاں پہ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ نے اچھی مثال قائم کی ہے۔ لیکن میری اس میں further گزارش یہ ہے کہ جو ممبر بھی جس کو suspend کریں اس کی صرف اس ہال تک suspension نہیں ہونی چاہیے بلکہ Assembly premises یا اس building کے اندر بھی اس کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہ gate سے زبردستی enter ہونے کی کوشش کرے جیسے اس سے پہلے کی گئی۔ تو ان کے خلاف فوجداری کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ دوسری سر! میری۔

جناب سپیکر: ڈاکٹر صاحب rules بھی یہی کہتے ہیں کہ precincts کے اندر ایسا ممبر نہیں آسکتا ہے جس کو suspend کیا گیا ہو۔

جی۔

جناب طارق فضل چوہدری: دوسری سر! میری submission یہ ہے کہ کل Question Hour میں ایک سوال کے جواب کے

دوران ایک question اور ایک point وہ honourable Member Qadir Patel Sahib نے raise کیا تھا جو Somali Pirates ہیں، بحری قزاق انہوں نے 10 پاکستانیوں کو hostage بنایا ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی Ministry of Foreign Affairs کارروائی کر رہی تھی۔ لیکن کل آپ کے اس اجلاس میں جو میں نے بھی یقین دہانی کرائی تھی۔ تو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ بھی ہیں۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ کہ ہم نے ان 10 پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے تمام کارروائیوں کو مزید تیز کر دیا ہے، میں خود ان کی نگرانی کر رہا ہوں اور بہت جلد انشاء اللہ تعالیٰ وہ پاکستانی وہ بازیاب کرائے جائیں گے۔ یہ Deputy assurance جناب Prime Minister Sahib نے دی ہے کہ میری طرف سے آپ House کو بتادیں۔

سر! تیسری گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن نے آج بھی جو boycott کیا ہے، متعدد دفعہ یہ بات یہاں ایوان میں بھی کی جا چکی ہے کہ جیل کی ملاقاتیں Jail Manuals کے مطابق ہوتی ہیں۔ کوئی بھی قیدی جیل میں ہو، PML(N) کی کوئی بھی ایسی senior political leadership نہیں ہے جو جیلوں میں نہ رہی ہو۔ Opposition دور میں ہم نے جیلیں کاٹیں، ہم نے مارشل لاء دور میں بھی جیلیں کاٹیں، کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، کئی دفعہ نہیں ہوئیں، لیکن یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک طریقہ کار اور ضابطہ ہے۔ آپ نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے، جب تک وہاں سے order آتا رہا، آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں ہیں۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں، جو کہ ان کی خواہش ہے، کہ عمران خان کی ملاقاتوں

سے، آپ ایک سیاسی دفتر کے طور پر جیل کو استعمال کریں، اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر ملک کے خلاف، سسٹم کے خلاف اور سب کے خلاف بیانات دیں، تو یہ ملاقاتیں اس طرح ہماری sweet will سے نہیں ہو سکتیں۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، آپ وہ اختیار کریں۔

جناب سپیکر! میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جہاں تک اُن کے علاج معالجے کا تعلق ہے، یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جب بھی انہیں کسی medical assistance کی ضرورت پڑی تو، ہم نے قطعی طور پر یہ انتظار نہیں کیا کہ PTI کی leadership آکر ہمیں کوئی درخواست دے یا وہ ہم سے کوئی رجوع کرے، ہمیشہ فی الفور بلکہ آپ کو یاد ہے کہ کئی دفعہ ان کی طرف سے اعتراض آیا کہ رات کے اندھیرے میں کیوں انہیں ہسپتال shift کیا گیا۔ تو بھائی، جو medical emergency ہوتی ہے، اس کا کوئی time مقرر نہیں ہوتا کہ رات کو یا مغرب کے بعد medical emergency نہیں ہو سکتی۔ جس وقت بھی انہیں medical assistance or help کی ضرورت پڑی، best out of the facility عمران خان صاحب اور اُن کی family کو مہیا کی گئی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اُن سمیت جو بھی قیدی جیلوں میں ہیں یا custody میں ہیں، انہیں علاج معالجے کی بہترین سہولیات ملیں۔ عمران خان چونکہ سابق وزیر اعظم ہیں لہذا ان کی medical سہولیات کو اُن تک بروقت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم وہ بخوبی ادا کر رہے ہیں۔

اُس کے ساتھ ساتھ، میں یہ بھی Opposition کو کہوں گا کہ آپ اگر Parliament کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ Business ہونا چاہیے، اور parliamentary انداز سے اس کو چلانا چاہیے، تو برائے مہربانی جب سے یہ Parliament بنی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک آپ ذرا اپنے رویے پہ غور کریں کہ آپ کے ایوان کے اندر کیا رویہ رہا ہے؟ کیا آپ نے کسی business کو سنجیدہ لیا؟ کیا جتنی یہاں پہ legislation ہوئی ہے، ہم نے بار بار آپ کو کہا کہ آپ اپنی مثبت تجاویز اُس میں دیں، آپ اُس میں اپنا role play کریں، آپ Budget میں اپنی مثبت تجاویز دیں، ہم incorporate کریں گے۔ کل دو بارہ، انشاء اللہ، Budget پیش ہونے جا رہا ہے۔ ہم دوبارہ آپ سے یہ request کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپنی مثبت تجاویز دیں، وہ incorporate کی جائیں گی۔ لیکن آپ نے صرف اس کو ایک debating club کے طور پر استعمال کیا۔ آپ یہاں آکر تقریریں کرتے ہیں، اُن کی video بنا کر social media پہ لگاتے ہیں، یا آپ کے سامنے یہاں پہ ایک تماشلاگا کر اس کی videos social media پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ forum اب آپ صرف اور صرف اپنی self projection اور social media activism کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ forum اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ august House اس وقت پاکستان کے جو تمام issues ہیں، جو political proliferation ہے، جو مسائل ہیں، اُن سب کے حل کے لیے ہے، اور اس میں اگر آپ positive contribution کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حق ادا کریں گے اس کا جو یہاں سے آپ تنخواہ لیتے ہیں یا عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔

جناب سپیکر! میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور آخر میں صرف میں ایک سے دو منٹ میں یہ عرض کروں گا کہ جو اس وقت position آزاد جموں و کشمیر میں ہے، اس کے حوالے سے بھی چونکہ بہت زیادہ گفتگو کل اور پرسوں بھی ہوئی، تو جب تک جو کالعدم Action Committee ہے، جب تک ان کے مطالبات within the ambit of Constitution تھے، وہ مانے بھی گئے، ان سے ہم نے ملاقاتیں بھی کیں، لیکن میں صرف ایک نکتے پہ بات کروں گا۔ جو مہاجرین کی 12 نشستوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے ہمیشہ Kashmir cause کی بات کی ہے۔ Kashmir cause کے لیے ہم نے India سے جنگیں بھی لڑی ہیں۔ Kashmir cause صرف Government نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ اور یہ جو مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں جن کی تعداد تقریباً 22 سے 25 لاکھ ہے، انہوں نے کل جو حق خود ارادیت میں ووٹ کرنا ہے، انہوں نے کل کو جو استصواب رائے میں ووٹ کرنا ہے ہم اس right کو اپنے ہاتھوں سے کسی صورت بھی ختم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ red line ہے جس کی بات کی گئی ہے۔ میں کالعدم Joint Action Committee کے تمام core Members کو یہ کہوں گا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے مذاکرات کیے، ابھی 30 مئی کو بھی Prime Minister صاحب کی طرف سے committee مذاکرات کے لیے گئی تھی، اگر آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔

جناب سپیکر: خواجہ آصف صاحب۔

خواجہ محمد آصف: جناب سپیکر! بہت شکریہ۔ میرے بھائی طارق فضل صاحب نے جو بات کی ہے، میں اس میں تھوڑا سا add کرنا چاہوں گا اور اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاسی تاریخ میں تمام پارٹیوں کے leaders قید رہے ہیں۔ Pakistan People's Party کی leadership طویل عرصہ قید میں رہی۔ President آصف زرداری قید میں رہے۔ اس کے بعد ہمارے موجودہ وزیر اعظم اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی قید میں رہے اور طویل عرصہ قید میں رہے، جلاوطن بھی ہوئے۔ لیکن ہم نے ان کی قید کے issues کو یا ان کی victimization کو highlight کیا، لیکن ہم نے system کو یا اس House کی sanctity کو یا اس کے process یا procedure کو داؤ پر نہیں لگایا۔ ہم احتجاج مختلف forums کو استعمال کر کے کرتے رہے، چاہے وہ عدالتی یا Parliament کا forum تھا، agitate کرتے رہے۔ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ 2016-17 میں کیا ہوا۔ اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا۔

Pakistan Muslim League (N) کی total leadership جس میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم

نواز، اور ساری کی ساری family، even جو non-combatants، جس طرح کہتے ہیں، جو سیاست میں نہیں تھے یا نہیں ہیں، آج بھی

نہیں ہیں، وہ بھی جیلوں میں چلے گئے۔ اس سارے House کی پچھلے دو سال یا سوادو سال جتنا بھی عرصہ گزر گیا ہے، کارروائی کا محور PTI کے لیے صرف اور صرف اُن کا leader رہا ہے۔

انہوں نے کسی national issue پہ کبھی debate میں حصہ نہیں لیا۔ کسی legislation وہ جس طرح بھی ہو، چاہے آپ اس legislation کو oppose کریں، اگر وہ اُس سے agree نہیں کرتے تو یہ اُن کا حق ہے، لیکن ایک ادارے کو، جو آئین کے تحت اس ملک کا سب سے مقدر ادارہ ہے، عدلیہ اور executive سے بھی اوپر ہے، یہ ادارہ fountain of power ہے اس کو degrade اور vilify کرنا، اس کی وقعت اور احترام کو compromise کرنے کی روزانہ کوشش کرنا، صرف ایک شخص کے لیے۔

جناب سپیکر! آپ کو بھی، مجھے بھی اور، ساری دنیا کو پتا ہے کہ انسان تو آتی جانی چیز ہے۔ بڑے بڑے لیڈر اور قد آور لوگ دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، یہ ملک جاری و ساری ہے، اللہ کے فضل سے جاری و ساری رہے گا۔ ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ ہماری آنے والی نسلیں آجائیں گی۔ یہ دنیا کی ریت ہے۔ دنیا کی جتنی ہزاروں سال کی تاریخ ہے اُس میں یہی ہوتا رہا ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں، جن کے لیے یہ کائنات وجود میں لائی گئی، وہ دنیا میں نہ رہے۔ تو اگر ان کا leader قید میں ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، عدالتی معاملہ ہے کہ وہ ٹھیک قید میں ہے یا غلط قید میں ہے، میں اس میں نہیں پڑنا چاہتا۔ لیکن، disrupting the process of this House, I think، میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے ماحول زیادہ vitiate ہو جائے۔ لیکن یہ رویہ درست نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے ٹھیک ہے کہ ان کو کوئی ہدایات آتی ہیں، وہ اس ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر شخص کھڑا ہو کہ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی طور کے اوپر اس چیز کے ساتھ نہ ہو۔ مجھے ذاتی طور پر یہ پتہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں، ہمارے PTI کے جو colleagues ہیں، کہ House ٹھیک طریقے سے چلے۔ ساتھ ساتھ احتجاج بھی کرتے رہیں، باہر بھی کریں، یہاں بھی کریں، لیکن undermine نہ کریں اس process کو۔ آپ undermine کریں گے تو already یہ ادارہ جو ہے over the years بہت undermine ہو چکا ہے۔ اس کو بڑی کاری ضربیں لگائی گئی ہیں پچھلے ستر چھتیس سال کے اندر۔ اس ادارے کو، یہ ادارہ recover کر رہا ہے، اور یہ کاری ضربیں ہماری طرف سے لگائی گئی ہیں۔ اگر ہماری کمزوریاں نہ ہوتیں تو کوئی اور باہر سے آ کے اس ادارے کو کاری ضرب نہیں لگا سکتا تھا یا اس کو مضمل نہیں کر سکتا تھا۔

اس کے لیے ہمیں introspection اور اپنا جو گریبان ہے اس کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی طعنہ آج ہمیں دیا جاتا ہے تو کون ہے جو اس House میں بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر وہ طعنہ fit نہ بیٹھتا ہو؟ کوئی ایک پارٹی یا individual بتادیں۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تمام forums پہ ضرور لڑتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں، لیکن اس House کی sanctity کو اگر وہ damage کریں گے تو نقصان ہم سب کا ہوگا۔ کسی ایک پارٹی کا یا فرد کا نقصان نہیں ہوگا، یہ collective نقصان ہوگا۔

اور اگر ہمیں اس House کو strength دینی ہے، تو اگر ہمیں یا media کو یا کسی اور کو شکوہ شکایت ہے کہ اس House کے پاس strength نہیں رہی یا یہ کمزور ہو گیا ہے، تو strength ہم نے دینی ہے۔ ہم زیادہ مضحل کریں گے تو تھوڑی بہت جو عزت آبرورہ گئی ہے، وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گی۔

تو I think یہ ایک بڑی بنیادی responsibility ہے یہاں پہ جتنے بھی Members بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ احتجاج ضرور کریں، آپ سے time مانگ لیں، دس پندرہ منٹ، بیس منٹ جو ہے تقریریں کر لیں، اپنا register point کروا لیں، لیکن disrupting the House, and process of the legislation جو ہمارا بنیادی حق ہے یا بنیادی فرض ہے۔ پھر ultimately undermine this House ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا جناب سپیکر! کشمیر کا مسئلہ جو ہے، میں تھوڑا، پانچ، سات، دس منٹ لوں گا۔ جو مہاجرین ہیں، انہوں نے قیمت ادا کی ہوئی ہے پاکستان کی سر زمین پہ آنے کی۔ میرے حلقے میں جموں کے مہاجرین سواد والا کھ شہید ہوئے while crossing the border into Pakistan یا اس کو آپ Control Line کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اور ایک مہینے کے اندر تو ی اور چناب سرخ ہو گئے تھے خون کے ساتھ۔

آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے حق وٹ چھین لیا جائے، جو آزاد کشمیر میں لوگ بیٹھے ہیں، with all due respect، مجھے بڑا احترام ہے ان کا۔ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ جس فوج نے اس علاقے کو liberate کر لیا، یا جو آج آزاد کشمیر ہے جس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ آزاد کشمیر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے کشمیر کو آزاد کرے، اس کے لیے سارے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، ہماری فوج نے قربانیاں دی ہیں، جس میں صرف کشمیری ہی نہیں تھے، اس میں تمام صوبوں کے لوگ تھے۔

یہاں پچیس کروڑ پاکستانیوں کی stakes ہیں کشمیر کے اندر، اور ان کو undermine نہ کیا جائے، ان کو compromise نہ کیا جائے۔ میرے ساتھ آئیں، میرے حلقے میں آئیں، ار مغان سجانی کے حلقے میں آئیں، سیالکوٹ تحصیل واحد ہے، جہاں پوری تحصیل کے اندر کشمیر کی سیٹ ہے، اور ہم جانتے ہیں ان stories کو۔

میں ایک شخص کے پاس گیا، اس کا جوان بیٹا ڈوب کے فوت ہو گیا۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے دیکھا والد کے چہرے پر جس طرح ایک دکھی اظہار ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا۔ کہتا ہے جی، گیارہ بچیوں کو خاندان کی ہم نے خود دھکا دے کے چناب میں پھینکا ہوا ہے۔ ہم ان دکھوں سے گزرے ہوئے ہیں۔ ان کی عصمتیں بچانے کے لیے۔

میں نے اجازت نہیں لی ہوئی، لیکن حامد میر صاحب کی نانی جو ہے وہاں رہ گئی تھی۔ لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ ان کا خاندان، جو ننھیال اور ددھیال دونوں سیالکوٹ میں بستے ہیں۔ ہر گھر میں کہانی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ان کو محروم کر دو، وہ کشمیری نہیں ہیں۔ انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، جو مختلف اقوام آزاد کشمیر میں بستی ہیں، ان کا کیا لگا ہوا ہے؟ کچھ نہیں لگا ہوا۔ They don't have any

stakes, they have not invested anything to liberate Kashmir. Whatever Kashmir we have with us. مجھے احترام ہے ان کا۔ میں نے آج بھی دو دفعہ tweet کی ہے کہ خدارا اس issue کو بالکل نہ دفن کریں، اس کو اٹھائے۔  
 Let it be۔ جو بھی issue ہے ان کا، لیکن election آنے والے ہیں، اس issue کو اٹھا کے لے جائیں public کے پاس۔  
 decided by the people of Kashmir. Take it into the realm of elections and electorate.  
 ان کو decide کرنے دیں۔ آپ کیوں preempt کر رہے ہیں؟ election سے پہلے یہ issue کو decide کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو بھی Assembly آئے کشمیر کی، وہ آپ کی مرضی کی آئے۔

ٹھیک ہے، ایک دو جہاں anomalies ہیں، مثلاً گراچی کی ایک سیٹ ہے، وہ چند ہزار vote ہیں۔ مجھے پتہ ہے میرے حلقے میں مہاجر ہیں، وہاں camps ہیں۔ آج بھی ان کو camp کہتے ہیں۔ حاجی پورہ camp ہے، پکا گڑھا camp ہے۔ وہاں پہ camps ہیں، ان کے نام آج بھی camps ہیں۔ آج سے آٹھ دس سال پہلے نہ وہاں بجلی تھی، نہ سوئی گیس تھی، کیونکہ ان کا status decide نہیں ہوا تھا۔ بڑی تنگ و دو کے بعد، ہم نے جو وہاں کے نمائندے ہیں، ہم نے ان کے status کو finalize کروایا۔ اس کی final shape سامنے آئی۔ اور پھر متشدد مظاہرے avoid کرنے چاہئیں۔ میں گفت و شنید کے حق میں ہوں۔ آج بھی اس کو گفت و شنید کے ساتھ ہی حل ہونا چاہیے۔ میں confrontation کے خلاف ہوں۔

لیکن جب آپ قانون ہاتھ میں لیں گے، خون بہائیں گے، تو how can you expect کہ State وہ خاموش رہے گی؟ آپ سرکاری اہلکاروں کی نہ صرف جان لیں، ان کو شہید کریں، بلکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کریں۔ اتنی نفرت کہاں سے آگئی؟  
 یہ کہیں لائن کے پار سے تو نہیں نفرت import کی انہوں نے؟ میں اس قسم کے کوئی allegation نہیں لگانا چاہتا، لیکن کوئی بھی کشمیری، کسی کشمیری کا یا پاکستانی کا۔ ہم کشمیریوں کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں، اور پاکستانی بھی کشمیری ہیں۔ اس کے اوپر کوئی speculate نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے سارے محترم ہیں۔ لیکن جناب سپیکر! یہ رویے جو ہیں، تاریخ ہے ان رویوں کی۔ 1951 میں، 1955 میں، اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ ایسے واقعات ہوئے، جن میں تشدد کی راہ اپنائی، جو لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ اور وہ basically issues یہی تھے کہ مہاجر، جو مقبوضہ کشمیر سے یا Valley سے یا جموں سے آئے ہوئے ہیں، ان کا کیا status ہونا چاہیے؟ آپ ان کی جو شناخت ہے، کشمیری ہونے کی وہ ان سے چھین نہیں سکتے۔ آپ وہ حق ان سے چھین نہیں سکتے۔ آپ بیٹھیں، پارلیمنٹ جو ان کی Assembly بنتی ہے، اس میں لے کے جائیں، voter کے پاس election سے پہلے لے کے جائیں کہ ہمارا یہ issue ہے۔ But how can you exclude them from the process۔  
 of election? ایک جمہوری عمل کو، آپ اس سے کس طرح سے exclude کر سکتے ہیں؟

یہ معاملہ جو ہے، گفت و شنید کے ساتھ اور Kashmir issue کو سامنے رکھ کر کہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ پاکستان نے جانیں دی ہیں کشمیر کے لیے۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ہماری فوج پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھ کے کشمیریوں کی اور کشمیر کے حق خود ارادیت کی حفاظت کر رہی ہیں۔ آج بھی اس میں ادھر کا کشمیری یا ادھر کا کشمیری نہیں ہے۔ اس میں پاکستانی ہے، اس میں پنجابی ہے، بلوچی ہے، پشتون ہے، سندھی ہے۔ پورا پاکستان ہے۔ آزاد کشمیر، آزاد لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس آزاد لفظ کا جو تحفظ ہے وہ پورا پاکستان کر رہا ہے۔ اس کو compromise نہ کریں۔ یہ لفظ آزادانہ کے ساتھ نہ لگا ہوتا اگر تو پاکستان نے ان کا مسئلہ اپنے سینے سے نہ لگایا ہوتا۔

قائد محترم، قائد اعظم نے کہا تھا شہ رگ ہے، آج بھی شہ رگ ہے، اور ہم اس شہ رگ کی حفاظت تا قیامت کریں گے۔ اور ہم کشمیر کے issue کو die out نہیں ہونے دیں گے۔ اس تشدد کے اندر کوشش ہے لوگوں کی کہ تحلیل ہو جائے کشمیر کا issue۔ و ما علینا الا البلاغ۔  
جناب سپیکر: شیر افضل مروت صاحب۔ میاں خان بگٹی صاحب۔

پارلیمانی سیکرٹری برائے توانائی (جناب میاں خان): Sir! Thank you! میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ سپیکر صاحب! کچھ دن پہلے جو پختون اور بلوچ کو لڑانے کی کوشش کی گئی ہے، تھوڑی دیر پہلے ہمارے ریسیانسی صاحب نے بھی تھوڑی وضاحت کی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب بہت بڑا سیاستدان ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، قابل احترام ہے۔ لیکن اس طرح کے بیان دینا بارڈر کے بارے میں اور بلوچ اور پختون کو لڑانے کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیان سے ریاست کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے بیرون ملک بلوچستان کے anti-State لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جان بوجھ کر اس طرح کا بیان دیا گیا ہے تاکہ باہر کے لوگوں کو موقع ملے۔

اس بیان کے بعد آپ کو اور ان سب کو جو اس House میں موجود ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے، اس میں تیزی آگئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت غلط ہے۔ بلوچ اور پختون کو لڑانے کی کوشش کرنا، یہ ایک senior سیاستدان کو زیب نہیں دیتا۔ میں اس چیز کی پُر زور مذمت کرتا ہوں۔ اور میں مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس طرح سے بلوچستان کو آگ لگانا کسی سیاست دان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم بلوچ ایک غیر متند قوم ہیں، اور بلوچوں کو پختونوں سے لڑانا کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بلوچ اپنے بلوچستان کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور اگر border کا کوئی معاملہ ہے، تو وہ Parliament میں آکر حل کریں۔ سیاسی صورت میں آکر بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک غلط بیان دے کر بلوچستان کے بارے میں ناخوشگوار ماحول پیدا کریں۔

دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا مقصد کیا تھا، بہر حال یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ بلوچ اور پختون کو لڑانے کی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اگر بلوچستان میں anti-State یا BLF کا کام کر رہے ہیں یا بلوچ قوم کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے تو ریاست ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، انشاء اللہ۔ اگر ہم سیاسی لوگ بھی اس طرح کی بیان بازی سے بلوچوں کو پختونوں کے خلاف لڑانے کی کوشش کریں گے اور anti-

State عناصر کو موقع دیں گے کہ آپ لوگ آئیں اور یہاں دہشت گردی کریں۔ میں ایک دفعہ پھر محمود خان کے بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بیان بازی بلوچ قوم اور پختونوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔

ہم سیاست کریں۔ لیکن وہ سیاست کریں جس سے بلوچستان میں امن ہو جائے۔ بلوچستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے۔ ہم وہ سیاست نہ کریں کہ بلوچستان میں مزید کوئی دہشت گردی کرے۔ اور وہ آکر ہمارے بلوچستان کے حالات خراب کر لے۔ Thank you سپیکر صاحب! مہربانی۔

جناب سپیکر: بہت شکریہ۔ شیر افضل مروت صاحب۔

جناب شیر افضل خان: بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب۔ رییسانی صاحب نے بات کی، کہ بلوچستان کے حوالے سے Leader of the Opposition کا جو statement آیا ہے، وہ پشتو میں تقریر ہے اور میں نے بڑی تفصیل سے سنی ہے۔ اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ ان میں پشتونوں کو کہا گیا ہے کہ ہر پشتون اپنے گھر سے ایک آدمی بندوق سمیت نکلے۔ یہ پشتونوں کو تو بندوق تھمائی گئی 1979 میں، جب بھرک کارمل کی حکومت تھی۔ تب سے آج تک پشتون لڑ رہے ہیں۔ اور اس لڑائی میں جو نقصان ہوا ہے چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، افغانستان ہو یا بلوچستان ہو، وہ صرف پشتونوں کا ہوا ہے۔

Leader of the Opposition صرف Pashtunkhwa Milli Awami Party کے سربراہ نہیں ہیں، بلکہ تمام اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو اس سے دل آزاری ہر اس ممبر اسمبلی اور ہر اس party Member کی ہوتی ہے جس کی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کو اپنی ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے پر اکسائیں۔

محمود خان اچکزئی بڑے قد کاٹھ کے پرانے سیاست دان ہیں۔ ایسے بیانات دینے سے جبکہ ملک میں حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف کشمیر میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور خواجہ آصف صاحب سے میں استدعا کرتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے پر بھی ایوان کو اعتماد میں لیں۔ وہاں Kashmir Action Committee کے اعمال کو جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً سرکاری ہسپتالوں پر حملے قابل مذمت ہیں اور معاملات بڑے سنگین ہیں۔ میڈیا میں blackout ہے، لیکن وہاں پر جو ہو رہا ہے۔ میری تجویز ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی جائے اور Action Committee سے بات کرے۔ اور اس آگ کو بجھائے۔

آپ کا کوئی نمائندہ گروپ جائے۔ کشمیر بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اور وہاں تقریباً 20000 کے لگ بھگ لوگ اب راولا کوٹ میں محصور ہیں۔ اگر ایوان اس میں interfere کرے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ آخری گزارش ہے کہ وزیر پارلیمانی امور نے عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بات کی۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ عمران خان کی ملاقاتوں کے لیے میں نے petition دی اور ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ یہ ملاقاتیں تقریباً پونے دو سال تک چلتی رہیں، پھر رک گئیں۔ اب جو کہا جاتا ہے کہ قانون کے مطابق treatment ہوگا۔

میں آپ کو عرض کروں، یہاں People's Party کے محترم ممبران اسمبلی بھی موجود ہیں۔ یہ آج کی تقاریر جو پارلیمان میں record ہو رہی ہیں، وہ ایک وقت میں دکھائی جائیں گی۔ اور کہا جائے گا کہ جب عمران خان کی ملاقات کا مسئلہ تھا تو PML(N) کا یہ موقف تھا۔ اگر زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی ہے تو یہ credit میں قطعاً PML(N) کو نہیں دے سکتا۔ PML(N) زرداری صاحب کو نہیں رکھ سکتی تھی جیل میں۔ یا میاں نواز شریف صاحب نے اگر جیل کاٹی ہے تو یہ People's Party کا کیا دھرا نہیں تھا۔

اگر نون نے 2018 میں PTI کے دور میں جیل کاٹی ہے تو وہ PTI کا کیا دھرا نہیں تھا۔ آپ سب لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں! [\*\*\*] ایک

قیدی کو آپ۔۔۔۔

جناب سپیکر: یہ میں expunge کر رہا ہوں جو آپ نے ابھی الفاظ کہے ہیں۔

جناب شیر افضل خان: سر! ختم کر رہا ہوں۔ کیا وہ ملاقات جو خان کی ہو رہی تھی وہ درست تھا یا جو ابھی نہیں ہو رہی ہے وہ درست ہے؟ سب

سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں قیدیوں کو قانون کے مطابق treat کیا جا رہا ہے یا نہیں؟

ایک آخری بات وزیر قانون صاحب کی توجہ کے لیے ہے۔ جناب عالی! کل میں ایک مسئلہ آپ کے نوٹس میں لایا تھا اور آپ کی بڑی مہربانی کہ

آپ نے اس میں متعلقہ ادارے کے سربراہ سے بات کی۔ پھر ہوا یوں کہ ان کے دفتر پہ raid کر کے، seal کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا اور شام ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر آپ کی call نہ جاتی تو نہ چھوڑتے، لیکن چھوڑ دیا گیا یہ کہہ کے کہ بس غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ اس طرح کی غلط فہمیاں تو نہیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کی چادر اور چادر دیواری کے تقدس کو پامال کریں۔

(اس موقع پر جناب سپیکر نے کرسی صدارت خالی فرمائی اور جناب ڈپٹی سپیکر کرسی صدارت پر متمکن ہوئے۔)

جناب شیر افضل خان: آج کل کوئی Member Assembly ذرا اپنا اختیار دیکھ لے، کسی تھانیدار کو یہ تو بتادے کہ بھی آپ کا یہ حق

نہیں ہے، آپ قانون سے تجاوز کر رہے ہیں۔ آئین مل کر پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بات کریں۔ میری استدعا یہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں، تاکہ ملک normalcy کی طرف واپس آجائے۔ میں جناب کا بہت مشکور ہوں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: آغا رفیع اللہ صاحب، brief رہے گا کیونکہ بہت سارے نام ہیں۔

سید رفیع اللہ: بہت شکریہ، جناب سپیکر! کشمیر کے حوالے سے تفصیلی بات کی Minister of Defence نے اور

Parliamentary Affairs کے Minister نے۔ میں Government کا بہت مشکور ہوں، وہ جو پاکستانی فزاق یرغمال ہیں، ان کے لیے جو اقدامات کرنے کا Government نے وعدہ کیا ہے، میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

†(\*\*\*بگم جناب سپیکر الفاظ کارروائی سے حذف کر دیے گئے۔)

سر! تربت بارڈر پر سینکڑوں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی ہیں۔ میری خواجہ صاحب، آپ سے request ہے کہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں fruits کی، exporters نے بڑی محنت سے گاڑیاں اور مال تیار کر کے border تک پہنچایا ہے، وہاں issue یہ ہے کہ چونکہ گاڑیاں جلائی جاتی ہیں تو Local transporters اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ان کو transport مہیا کریں۔ جو کراچی یا لاہور سے، یا ملتان سے جو گاڑیاں mango لے کر گئی ہیں، وہ بلوچستان میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہی ہیں کہ گاڑیاں daily basis پر جلائی جا رہی ہیں۔ تو آپ سے request ہے کہ یہ جو exporters کو جو issues ہیں border پر، ان کے لیے کوئی اقدامات کریں تاکہ وہ fruit جو خراب ہو رہا ہے، وہ ضائع نہ ہو۔ ہماری economy، پاکستان، exporters اور کاشتکاروں کے لیے بھی بہتر ہے۔

تو میری آپ سے humble request ہے کہ اس پر Minister صاحب کوئی ایسی statement دیں، تاکہ وہ لوگ جو پریشان border پر کھڑے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے گاڑیوں میں اپنا fruit لے کر تو خدا را یہ مسئلہ حل کیا جائے، تاکہ پاکستان نقصان سے بچے۔ بہت شکریہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ جمال شاہ کارٹر صاحب۔

حاجی جمال شاہ کارٹر: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شکریہ، جناب ڈپٹی سپیکر صاحب! سب سے پہلے میں خواجہ آصف صاحب اور طلال چوہدری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے اجلاس میں ایک بچی کو جو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کیا تھا۔ ہماری نشاندہی پر انہوں نے فوراً برآمد کر کے والدین کے حوالے کر دی اور سندھ کے Chief Minister کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے نشاندہی کی کہ پشتون community میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک لشکر پشتونوں کا روانہ ہوا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے سرکار نے اس بچی کو بازیاب کر لیا۔

جناب ڈپٹی سپیکر! آج پھر میں بلوچستان کے حالات کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ Ground reality یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں بے روزگاری تو تھی، لیکن اب راستے بھی بند ہیں، net بھی بند ہے اور آج بھی پورے بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال ہے۔ وہاں جتنی بھی ٹرانسپورٹ unions ہیں، انجمن تاجران ہیں، Chamber of Commerce ہے، سب نے مل کر عجیب مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں امن دو۔ صرف امن کے لیے آج پورا بلوچستان بند ہے۔ وہاں پر trucks جلائے جاتے ہیں، وہاں پر راستے محفوظ نہیں ہیں اور قتل و غارت گری ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم لوگوں نے نہیں سنبھالا تو دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ بلوچ اور پشتون جو کہ صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں اب دشمن اس سے فائدہ اٹھا کے بلوچ اور پشتون کو لڑانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم نہیں لڑیں گے۔ بلوچ اور پشتون بھائی بھائی ہیں اور ہم نہیں لڑیں گے۔

چاہے بلوچ ہو، یا پشتون، اگر یہ کوشش کریں کہ اس صوبے کو مزید آگ میں دھکیلا جائے تو ان شاء اللہ یہ سازش ناکام ہوگی۔ لہذا میں خواجہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان کے حال پر رحم کریں۔ جب روزگار بھی نہ ہو، راستے بھی بند ہوں، امن بھی نہ ہو اور ان حالات میں

Airline والے بھی پھر 30 ہزار کا ticket ایک لاکھ روپے کا دیں تو لوگ کہاں جائیں گے؟ اسی لیے میں request کرتا ہوں کہ بلوچستان کو serious لیں اور بلوچستان میں دشمن جو ناکام کوشش کر رہا ہے، وہ انشاء اللہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بلوچ اور پشتون بھائی بھائی ہیں، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ایک گلدستہ اور federation ہے۔ انشاء اللہ ان سازشوں کو ہم ناکام بنا دیں گے۔ شکریہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ جاوید حنیف صاحب، brief کیجیے گا، کافی سارے نام ہیں۔

جناب محمد جاوید حنیف خان: سر! میری باری آئی تو brief ہو گیا۔

جناب ڈپٹی سپیکر: سب کی باری میں brief آئے گا۔

جناب محمد جاوید حنیف خان: سر! ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بیس بیس منٹ کی speeches ہوئی ہیں۔ شکریہ، سر! آپ نے موقع دیا۔ یہاں ایک Calling Attention Notice تھا جس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ ہمارے سندھ کے colleague نے اپنا concern show کیا کہ سندھ کے اندر پانی کی shortage ہے۔ انہوں نے اپنا ٹھیک concern show کیا۔ I support them کہ سندھ کے اندر واقعی shortage ہے اور پاکستان کی economy کا سندھ کے لوگوں کے اوپر بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ While appreciating that میں figures دیکھ رہا تھا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار کیوسک پانی جو دیا جا رہا ہے سندھ کے اندر اور 90 ہزار کیوسک دیا جا رہا ہے۔ پھر Accord کا ذکر آیا، اس میں 48.76 million acre پانی سندھ کو دیا جاتا ہے۔

سر! ہم کراچی والے 2001 سے 1200 کیوسک پانی مانگ رہے ہیں اور وہ آج تک ہمیں sanction نہیں کیا گیا، جبکہ Water Accord کے اندر بڑا clear لکھا گیا ہے کہ جو سندھ کا شمیر ہے، اس کے اندر کراچی کا پانی شامل ہے اور اس کے Para 5 میں لکھا گیا ہے کہ پینے کے پانی کی priority agriculture use پر ہوگی۔ آج تک K-IV کو پانی نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے K-IV ابھی complete نہیں ہو رہا ہے۔ 260 MGD Water کی جو بات ہوئی ہے، اس کا پانی ابھی تک کہیں سے sanction نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک صرف اتنی بات ہو رہی ہے کہ canal water کی saving کر کے وہ پانی دیا جائے گا۔

سندھ نے CCI کو ایک letter لکھ دیا ہے کہ Government of Pakistan کراچی کو پانی دے۔ اب Government of Pakistan کہاں سے پانی دے گی؟ جو Water Accord ہے، اس میں جتنا پانی تھا، وہ سارا Provinces کے درمیان distribute ہو گیا ہے۔ سندھ کا share چار کروڑ اسی لاکھ چھتر ہزار million acre ہے اور کراچی 0.8 million acre پانی مانگ رہا ہے، تو 0.8 million چار کروڑ اسی لاکھ میں سے نہیں نکلتا کراچی کے لیے۔ اسی Accord کے اندر para 4 میں لکھا ہوا ہے کہ جو remaining water ہوگا، اگر اس سے زیادہ پانی آتا ہے تو وہ پانی بھی distribute 100% کیا جائے گا۔ 37 percent سندھ کا

ہے، 37 percent پنجاب کا ہے، KP 14 percent کا ہے اور 12 percent بلوچستان کا ہے۔ مجھے بتائیں کہ Federal Government کہاں سے پانی دے گی؟ تو جب یہ بات آتی ہے۔۔۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ، Mic کھولیں۔

جناب محمد جاوید حنیف خان: کراچی کا revenue ہو تو کراچی سندھ کا حصہ ہے۔ کراچی سے resources لے کر جانے ہوں تو کراچی سندھ کا حصہ ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ نفیہ شاہ صاحبہ، جاوید حنیف آپ کا پوائنٹ آگیا ہے۔ Point of Order پر اتنی ہی بات ہوتی ہے جاوید بھائی۔ آپ کہنا نہیں۔ مائیک کھولیں۔ Wind up کریں۔

جناب محمد جاوید حنیف خان: K-IV جو فرض تھا Provincial Government کا، وہ Federal Government کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ کریں۔ Augmentation کا کام آج تک شروع نہیں کیا گیا۔ کراچی کے لوگوں کو پیا سامارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نہ پانی دیتے ہیں، نہ کام کرتے ہیں اور نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، کراچی کو نچوڑنے کے لیے سندھ کا حصہ بنایا گیا ہے، کراچی کو کچھ دینے کی باری آتی ہے تو یہ صورت حال ہوتی ہے، بہت شکریہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: خورشید جو نیو صاحب۔

جناب خورشید احمد جو نیو: دو issues ہیں تھوڑا اس پر بات کریں گے۔ کچھ دن پہلے لاڑکانہ ڈویژن میں اپر سندھ میں طوفان آیا اور اس میں تقریباً سات آٹھ اضلاع کی light off ہو گئی تھی اور لاڑکانہ میں تقریباً ایک سو آٹھ feeders قبم، شہداد کوٹ اور لاڑکانہ میں اور ان میں سے آٹھ چل رہے تھے اور پانچ دن وہاں پر بجلی نہیں تھی۔ اب وہاں پر 220 KV transmission منظور ہے، جو ابھی تک وہاں پر نہیں لگایا گیا ہے، اب سب اسٹیٹن جو ہے وہ National Transmission and Dispatch Company - NTDC نے اس کو approve بھی کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو وہاں پر جتنا جلدی ہو سکے لگایا جائے تاکہ وہاں پر جو fault ہے وہ ختم ہو جائے گا۔

اور دوسرا مسئلہ پانی کی shortage کا ہے۔ اس پر کافی discussion ہو چکی ہے اور منسٹر نے اس پر کافی سارے جواب بھی دیے ہیں۔ وہ جو تقریباً unsatisfactory جواب تھا۔ سندھ کو پانی 130,000 کیوسک چاہیے تھا۔ سکھر بیراج کے اوپر 94520 cusec تھا اور downstream 49200 cusec تھا last year۔ مگر سکھر بیراج میں آج کا upstream 50620 cusec figure ہے اور downstream 18500 cusec ہے۔ اب گڈو بیراج پر 43% shortage ہے، سکھر بیراج پر 44% اور کوٹری پہ 62% shortage ہے۔ اب گڈو میں اس وقت 90413 cusec upstream ہے اور 65976 cusec downstream ہے۔ سکھر

بیراج پہ upstream 53620 cusec اور کوٹری بیراج upstream 21000 cusec downstream ہے، اور کوٹری بیراج upstream 12365 cusec اور نیچے nil ہے۔

اب کوٹری میں تقریباً تین نہریں بہتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں سے بھی کراچی کو پانی جاتا ہے۔ اب اتنا پانی جب کم ہوگا تو وہ سب کو تکلیف ہو گی۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی shortage ہونے کے بعد ہماری rice کی فصلیں جولائی کے آخر میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب وہ time بہت short ہے۔ اب اس میں جب تک پانی نہیں ملے گا تو ہماری فصل نہیں ہوگی rice کی پورا season۔ تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کل meeting رکھی ہے منسٹر صاحب نے ہم لوگ اس میں چاہتے ہیں کہ اس کو take up کریں۔ شکر یہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ، جناب پلین صاحب۔

جناب پلین: شکر یہ جناب سپیکر! جیسے کہ آج یہاں پہ میرے دوست جمال صاحب نے مختصر بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کچھ نکات سامنے آجاتے ہیں۔ کبھی اچھے کبھی بُرے، لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک پارٹی کی leadership کی جانب سے مسلسل بلوچستان کے سیاسی حالات سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بلوچ اور پشتون کے درمیان ایک تضاد create کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم پشتون اور بلوچ کو لڑائیں گے اور بیچ میں اپنی سیاسی دکانداری چکائیں گے، it's not possible اور جناب والا! ہم واضح کرتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کی فورسز کی قربانیاں ہیں، یہ بلوچستان کی سالمیت کی جو بات کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کی قربانیاں کیسے رائیگاں جاسکتی ہیں۔ اور بلوچستان کو کیسے تقسیم کیا جاسکتا ہے، یہ انتہائی negative عمل ہے۔ اس کے حوالے سے بلوچستان میں امن وامان کی صورت حال تو انتہائی تشویشناک اور اتر ہے۔ اور اس حوالے سے وہاں کی صوبائی حکومت اور ذمہ داران اپنی کوشش میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔

لیکن میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں، اس ایوان کے حوالے سے اگر ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ بلوچستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ data اٹھا کر دیکھ لیں، اس ہفتے عید کے بعد سے آج تک پنجگور میں دس سے پندرہ ایسے لوگ مارے گئے جن کا نہ مارنے والوں کو خبر، نہ مرنے والوں کو خبر۔ اسی طرح سارے اضلاع کی صورت حال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے ساتھ لگنے والے borders ہیں ایران کے، تربت، گوادر اور دوسرے اضلاع کے، ان کو بند کر کے لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس سے صورت حال اور زیادہ سنگین اور مزید خراب ہوگی۔ تو ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں آپ سے، آپ کے اس ادارے سے، موجودہ گورنمنٹ سے کہ بلوچستان کے borders کو کھولا جائے، لوگوں کو آزادانہ طور پر روزگار کرنے دیا جائے۔

اور کسٹم کے حوالے سے یہاں پہ کل بات ہوئی تھی، میں کہتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ انتہائی زیادتی کی گئی کہ وہاں پہ اربوں روپے کی پراپرٹی کو آگ لگا دی گئی ہے۔ جناب سپیکر! آپ یقین کریں میں ہفتے کے دن وہاں سے گزرا تو تب تک دھواں نکل رہا تھا۔ تو کیا اس حکومت کی یہ

ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ملزمان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے اور وہ لوگ جن کا وہاں پہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے ان کو compensate کریں۔ تو کون کرے گا؟ سر! یہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: آپ کے آگے سارے points، میر غلام علی تالپر صاحب۔

میر غلام علی تالپر: شکریہ جناب سپیکر! اس وقت سندھ میں دو بڑے مسائل ہیں۔ ایک پانی کی کمی ہے، جس پر میرے honourable Member from Larkana نے بات کی ہے۔ انہوں نے پر سندھ کے حوالے سے بات کی ہے، میں لوئر سندھ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارا crop early آتا ہے اور جو اس وقت rice crop ہے اس کی جون جولائی میں نشوونما ہوتی ہے اور اسی وقت لگایا جاتا ہے۔ کوٹری بیراج پہ پانی اس وقت 52 فیصد کمی کا شکار ہے اور اگر یہ پانی کی کمی اس مہینے میں پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کتنا بھی پانی بھیجیں گے چاول کی فصل نہیں ہوگی اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیونکہ جو بھی چاول جولائی میں لگے گا اگر وہ 100 من آتا ہے تو اس کی جگہ پچاس من، اگر پچاس آتا ہے تو پچیس، ایسے ہی کم ہوتا جائے گا۔ جو نہ صرف ملک کا نقصان ہے بلکہ کاشتکار بھی بیٹھ جائے گا، کاشتکار تو پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ گندم کی فصل، گنے کی فصل، کپاس، ٹماٹر اور اب آلو، پیاز اور اب جو آم کی فصل آئی ہے اس نے بھی بہت بری حالت کر دی ہے۔

ایکسپورٹ بند ہے، مارکیٹ میں قیمتیں غیر معمولی ہیں۔ آم کی اس سال، کھانے والوں کے تو مزے ہیں۔ لیکن جن کے پاس آم ہیں وہ شاید سفید پوشی کو بھی برقرار نہ رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسمی حالات ایسے آئے، آندھی ایسی آئی ہے کہ نہ صرف آم ہی گر پڑے بلکہ درخت ہی جڑ سے اکھڑ گئے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ کاشتکار کی ایسی بری حالت ہو گئی ہے، input ان کے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ سترہ ہزار روپے میں DAP کی بوری اگر ملے تو، یوریا ہزاروں میں، ڈیزل ہزاروں میں، تو اب کاشتکار کہاں جائے؟ یہ سب قانون پسند لوگ ہیں، یہ کہیں جا کر کوئی ڈکیتی، کوئی لوٹ مار نہیں کر لیں گے، یہ فاقہ کریں گے۔ لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ان کے لیے گزارش ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی منصوبہ لایا جائے کہ agriculture کو کیسے آگے بڑھانا ہے جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: میر صاحب کل وہ ایک meeting ہو رہی ہے جو Water کے Minister Sahib نے بلوائی ہے۔

میر غلام علی تالپر: وہ ہو رہی ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: اس کو آپ attend کیجیے گا اور اس میں اپنا issue raisel کیجیے گا۔ شکریہ۔ آپ کے سارے points آگئے۔

بہت مہربانی۔ جی، گل اصغر خان صاحب، briefly please.

پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات (جناب گل اصغر خان): بہت شکریہ جناب سپیکر! کہ آپ نے مجھے Floor دیا۔ جناب سپیکر! میں بات

کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی recently بلوچستان میں ایک جلسہ ہوا اور اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب اچکزئی صاحب نے ہرزہ سرائی کی کہ ہم

افغانستان کے اوپر جو باڑ لگی ہوئی ہے وہ باڑ ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ اس طرح کہا کہ ہم ان عدالتوں کو نہیں مانتے، ہم اپنی عدالتیں لگائیں گے اور ہر پختون ایک gun اپنے پاس رکھے۔

تو جناب سپیکر! یہ چھبیس کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے۔ میں اپنے حلقے میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جناب سپیکر! جنہوں نے جب پاکستان بنا تو اپنی بچیوں کے گلے کاٹ دیے تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں۔ آج بھی وہ خاندان divide ہیں۔ کیا پاکستان صرف ان چند لوگوں کا پاکستان ہے؟ جناب سپیکر! اچکنی صاحب ہمارے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بالکل قابل احترام نہیں ہیں۔ ہر وہ بندہ جو پاکستان کے اور پاکستانیت کے خلاف بات کرے گا، چاہے وہ جس عہدے پہ بھی ہو گا وہ خدا ہے۔ اس نے پاکستانیت کے، پاکستان اب چند دن پہلے میرے اپنے رشتہ دار شہید ہو گئے۔ کس کے لیے سر ہم قربانیاں دے رہے ہیں؟ اس پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ جو اٹھتا ہے کبھی کشمیر سے چند سرداران اٹھتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے۔ ایک پنجابی اٹھتا ہے کہ جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے، کتنے لوگ ہوں گے یہ؟ 10 ہزار، 15 ہزار، ان بیانات سے 26 کروڑ لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، جناب سپیکر۔

پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستانیت ہمارے روح میں بستی ہے جناب سپیکر! اور کہیں اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتے کہ ہم اکھاڑ کے، آپ یہ بات کر کے دیکھیں۔ آپ دہائی جاتے ہیں وہاں پہ ایک signal نہیں توڑتے، وہاں دہائی میں کوئی کھڑا ہو کے بات کرے کہ میں دہائی کو نہیں مانتا، کیا وہاں کے شہری اس کو چھوڑیں گے؟

آپ China میں بات کر کے دیکھیں کہ China کی ہم State کو نہیں مانتے، آپ سعودی عرب میں صرف بات کر کے تو دیکھیں۔ یہاں جو اٹھتا ہے، ایک چھوٹی سی community کہ جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستانیت کو نہیں مانتے۔ پاکستان کے خلاف ہونا ایک fashion بن گیا ہے۔ چند ووٹوں کے لیے establishment کے خلاف ہونا اب بھی establishment کا پاکستان ہے، پاکستان ہمارا Establishment تو بیچاری وہاں پہ فوجی جو ہے وہ ایک بچہ جوان ہوتا ہے۔ ہمارے بھی بچے جناب سپیکر! 16 سال کا بچہ جاتا ہے۔ پہلے دن سے اس کو threat ہوتا ہے، کونسی مائیں، یہاں پہ ہم گئے جناب سپیکر! اس 14 اگست کے اوپر ایک ماں کے دو بیٹے شہید ہوئے وہ کہہ رہی ہے آخری بچہ گیا ہے اس کو بھی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔

تو جناب سپیکر! ہمارا دل دکھتا ہے۔ میں نے خود اپنے ڈیرے کا نام پاکستان ہاؤس رکھا ہوا ہے صرف پاکستانیت کی وجہ سے، کوئی ہم لوگ یہاں پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں تو کوئی ہم تنخواہوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر یہ بات کرے اور وہ اپوزیشن لیڈر کہے کہ باڑ ہم اکھاڑ کے پھینکیں گے اور ہم boundary کو نہیں مانتے۔ تو بھائی تم چلے جاؤ پھر افغانستان یہاں پہ اپوزیشن لیڈر بننے کی، یہاں پہ ایم این اے بننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے پھر افغانستان سے آپ نہیں۔

تو جناب سپیکر! یہ کسی صورت بھی acceptable نہیں ہے کہ آپ پاکستان اور پاکستانیت کے خلاف بات کریں۔ آج اگر sustainable ہیں ہم لوگ تو اس پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ آج لیبیا کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، ایران کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو یہ سب خدا نخواستہ ہمیں نظر آرہا ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ آخری بات۔۔۔۔

جناب گل اصغر خان: جناب سپیکر! آخری بات کہ ہمارے مسائل ہیں۔ ہمیں بھی دکھ ہے بلوچستان کا بھی ہے کہ بلوچستان پسماندہ ہے۔ سندھ پسماندہ ہے، پنجاب میں بھی کچھ علاقے پسماندہ ہیں، کشمیر پسماندہ ہے۔ ہم مل کے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں،

خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب  
ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے

پاکستان زندہ باد۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ جی، کرن حیدر صاحبہ۔ ذرا briefly، کرن حیدر صاحبہ پلیز۔  
محترمہ کرن حیدر: شکریہ جناب سپیکر۔ بہت لیٹ آپ نے میرا نام دیا، کوئی بات نہیں۔

تو جناب سپیکر! میں بلوچستان سے ہوں۔ لیکن کیا بتاؤں کہ میں بلوچستان سے تو ہوں لیکن میں پاکستانی ہوں۔ میں پاکستان سے ہوں، پاکستان میرا ملک ہے۔ اور میری اپنی آنکھوں کے سامنے قد آور تصویر ہے میرے قائد کی، قائد اعظم کی۔ تو میں یہ ساری speeches سن رہی تھی۔ محمود خان کی باتیں، جمال ریسائی نے بھی ساری بتائیں اور اب انہوں نے بھی بتائیں۔ وہ ان ساری باتوں کو میں سامنے رکھ کے سوچ رہی تھی کہ میرے قائد نے، میرے قائد یہ ناممکن کو ممکن کر دیا تو نے۔

مطلب جیسے ہم سوچتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے، ہم جان دینا چاہتے ہیں، ہم قربان ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہی پاکستان کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں؟

میرے قائد یہ ناممکن کو ممکن کر دیا تو نے

جو دیکھا خواب شاعر نے اسے سچ کر دیا تو نے

میری سب صبحیں بھی اپنی ہیں، حسین شامیں بھی ہیں میری

میری شاموں کی صبحوں میں اجالا بھر دیا تو نے

خدا یا شکر ہے تیرا

یہ محمود خان سے کہیں کہ سیں۔

کہ خدایا شکر ہے تیرا یہ سب تیری عنایت ہے

ہمیں آزاد دھرتی پہ جو پیدا کر دیا تو نے

ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہی آزاد ملک میں کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں، اپنے ملک کی عزت و حرمت کے نام پہ اس طرح کی

باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔

بلوچستان میں میں رہتی ہوں، بلوچستان میں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ بلوچ پٹھان کا آپس میں کوئی تفرقہ ہو۔ یہ تو تفرقہ ڈالنے والی بات

ہے کہ آپ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلوچ پٹھان الگ ہیں۔ وہ الگ نہیں ہیں، وہ رشتوں میں جڑے ہیں، وہ ایک مٹی سے ہیں، ایک پانی پیتے ہیں، ایک

جگہ رہتے ہیں۔ وہاں کوئی ان کے درمیان میں تفرقہ نہیں ہے۔ یہ تو تفرقہ ڈالنے والی بات ہے۔ انہیں بیٹھ کے سمجھایا جائے کہ بلوچستان میں پہلے ہی

حالات ایسے ہیں کہ وہاں اس طرح کی باتیں کرنا غلط ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ نہ کریں۔ ہم پنجابی، بلوچ، بروہی، پٹھان سب ایک ہیں اور اکٹھے رہتے

ہیں۔ وہ تو دہشت گردی کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں دیکھیں۔ ابھی گل اصغر نے بات کی کہ ہمارے وہاں پہ 16 سال کا نوجوان پڑھ لکھ

کے، محنت کر کے، ترقی کر کے lieutenant بن کے آتا ہے۔ تو آ کے وہ صرف ملک پہ قربان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے صوبے بلوچستان پہ قربان ہو جاتا

ہے۔ یہ کیسی۔۔۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ۔ مائیک کھولیں۔ آخری بات کریں۔

محترمہ کرن حیدر: جی، ایک آن پڑھ بندہ اٹھے اور اس کو گولی مار دے جس نے اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے اتنی محنت کی ہے، پڑھ کر

آیا ہے، وہ اپنے ملک پہ قربان ہونا چاہتا ہے۔

تو سر! ہمارے بلوچستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بلوچ پٹھان میں کوئی تفرقہ ہو، کوئی فرق ہو۔ وہاں سارے ایک ہیں اور please

انہیں کہیں کہ اس طرح کی باتیں یہ یہاں پر نہ کریں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ۔ جی اختیار بیگ صاحب۔

مرزا اختیار بیگ: بہت شکر یہ سپیکر صاحب! آج آپ نے پانی جیسے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ کھل کے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ سندھ

میں جو مسائل ہیں پانی کی کمی سے جو فصلیں نقصان ہو رہی ہیں، جو اور نقصانات وہاں پہ پہنچ رہے ہیں وہ سب ذکر ہو گئے۔

میرا کراچی سے تعلق ہے اور کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ کراچی میں میرا جو حلقہ ہے وہاں پہ ایک dedicated

pipeline Dumlottee سے DHA کے لیے finalize کی گئی تھی وہ project approve ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ابھی تک

اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔

کراچی میں industries بند ہو رہی ہیں۔ یہ industries بجلی اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں۔ کیونکہ پانی اب affordable نہیں رہا کہ آپ ٹینکروں سے خریدیں۔ کراچی میں upper class بھی جو ٹینکر لیتی ہے وہ بھی اب مہینے کے تین، تین لاکھ روپے، چار لاکھ روپے پانی کا بل دینے کے قابل نہیں رہے ہیں اور وہ بھی آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پانی جو ایک necessity اور ضرورت ہے، it is not a luxury اس سے ہمیں deny کیوں کیا جا رہا ہے؟

میری request آپ سے یہ ہے کہ میرے حلقے کا Dumlottee to DHA جو project ہے one million gallon پانی کا اس کے لیے expedite کرنے کی کوئی ہدایت کی جائے کیونکہ وہ project جو ہے وہ break it اور make it کی نوعیت رکھتا ہے اور کراچی میں پانی کی کمی کے لیے hydrants کا business تو چل رہا ہے وہ mafia pipeline میں پانی نہیں دیتا۔ Hydrant میں پانی ہے، ٹینکر میں پانی ہے۔ تو جب ٹینکر میں اور hydrant میں پانی ہے تو pipeline میں کیوں نہیں آسکتا؟ یہی میرا سوال ہے وزیر موصوف سے پلیز۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ خان محمد جمالی صاحب۔ ذرا briefly جمالی صاحب۔

میر خان محمد جمالی: شکریہ سر! بلوچستان کے حالات تو صحیح نہیں ہیں۔ پہلے ہی بلوچستان جل رہا ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ایک ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی نے جو تقریر کی وہاں بلوچستان میں، اس نے اور آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ کہ بلوچستان کے لوگ باشعور ہیں۔ انہوں نے اس کی سازش کو سمجھا اور اس کو رد کیا۔

انہوں نے جو لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ آپ بارڈر اکھاڑ دیں، آپ جتھے بنا لیں، اپنے لشکر بنا لیں تو لوگوں نے اُس کو مسترد کر دیا ہے۔ میں بلوچستان کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سازش سمجھی اور اُسے ناکام کیا۔ ایک چیز میں اور کہتا چلوں، بلوچ اور پٹھانوں کا ایسا رشتہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، ہماری شادیاں ہیں، ہماری غمی خوشی ایک ہے، تو ان شاء اللہ جو بھی سازش بلوچستان کے خلاف ہو گی ہم بلوچستان کے پختون اور بلوچ مل کر اس کو ناکام بنائیں گے، شکریہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ اسد نیازی صاحب۔

جناب اسد عالم نیازی: جناب سپیکر! شکریہ۔ آج جو بلوچ اور بلوچستان کی بات ہوئی، بلوچستان صرف پاکستان کا حصہ ہے اور مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا، یہ on record ہے، میرے آئینبل ممبر اس کو نکال کر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ آج جس پارٹی کے لیڈر بن کر بیٹھے ہیں انہی کی پارٹی کے لیڈر نے شاہد آفریدی کو کوئٹہ بھیجا اور وہ خود گئے اور انہوں نے کہا، ان کا نام لے کر کہا کہ محمود خان اچکزئی غدار ہے اور آج اُن کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے جو بات کی آج ہماری law enforcement agencies daily کی بنیاد پر جو جانیں دے رہی ہیں یہ اُن کے morale کو

de-moralize کرنے والی بات ہے لیکن ایسے انسان کی وجہ سے یہ بالکل نہیں ہو سکتا، ہم ایک ہیں، ایک رہیں گے اور ہم ہمیشہ اپنے اداروں کی strength بنیں گے اور ان کو مضبوط بنائیں گے، شکر یہ۔

**Mr. Deputy Speaker:** Thank you. The House is adjourned to meet again on Friday, the 12<sup>th</sup> June, 2026, at 3:00 p.m.

\_\_\_\_\_

(The House was adjourned to meet again on Friday, the 12<sup>th</sup> June, 2026, at 3:00 p.m.)

\_\_\_\_\_